

اس کتاب کی مدد سے تمام خواتین و حضرات
اس روحانی طاقت سے ناکندہ اٹھا سکتے ہیں

دعواتِ جنّات

مصنف

صوفی محمد ندیم محمدی

اولمپک پلازہ، الکریم
مارکیٹ اردو بازار لاہور

شمع بک ایجنسی

اس کتاب کی برو سے تمام نمازیں و حضرات
اس روحانی طاقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں

دُعَوَاتِ جَنَاتِ

مصنف

صوفی محمد ندیم محمدی

الملک پلازہ، الکریم
مارکیٹ اردو بازار لاہور

شمع ایک ایجنسی

اس کتاب کی مدد سے تمام خواتین و حضرات
اس روحانی طاقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

دُعواتِ جنّات

مصنف

صوفی محمد ندیم محمدی (ماہر علوم مخفی)

مدیر اعلیٰ دو ماہی "روحانیات" کراچی

پنٹر
شعاع پبلیکیشنز

اولپک پلازہ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

ذکر و شریف

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو۔"

سورۃ احزاب - ۵۶

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ
عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

*

قرآن کریم کی مقدس آیات اور احادیث مبارکہ کا احترام آپ پر فرض ہے جو اذان پر یہ آیات اور احادیث مبارکہ پڑھیں ان کو
اسلامی طریقہ کے مطابق بے غرضی سے سمجھنا رکھیے۔

نو شرائط ریاضت تسخیرات

پہلی شرط تمام خواتین و حضرات جو تسخیر کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ترک حیوانات ضرورہ کریں یعنی گوشت، دودھ اور گھی وغیرہ نہ کھائیں بلکہ ان سے تیار کردہ کوئی چیز بھی استعمال نہ کریں صرف جو کی ٹکیاں یا کھجور یا پھیر کھنشش کھا لیا کریں۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا پر عمل کریں۔ نہ زیادہ گوشہ نشین رہیں وقت پر نماز فرض و نفل ادا کریں۔ جہاں عمل پڑھے ہیں وہاں حصار باندھ کر سو جائیں۔

دوسری شرط یاد سے اللہ تعالیٰ نے تمام موکلات کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ مافی الضمیر سے آگاہ ہوتے ہیں۔ آپ عمل کی تاثیر پر مکمل یقین رکھیں کہ موکلات آپ کے کاموں میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ کی سوج منگنی ہوگی تو ایسا خیال کرنا بے ادبی ہے اور بے ادبی کرنے والے کو کوئی انسان پسند نہیں کرتا یہ تو پھر موکلات ہیں۔

تیسری شرط مکمل عزم کے ساتھ عمل کو شروع کریں عمل کی تاثیر سے بدول نہ ہوں۔ بار بار عمل کو کریں ساعات اور دوسری شرائط عملیات تسخیرات کا خیال رکھیں اور بروقت اس گمان میں رہیں کہ موکلات یا جنات میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آپ کے پاس آئے گا۔ یاد رہے کہ یقین کامل جس قدر زیادہ ہوگا منزل اتنی ہی آسان ہوگی۔

چوتھی شرط وہ خواتین و حضرات جو کوئی بھی تسخیر کا عمل کریں وہ ہر ایک سے اس بات کو پوشیدہ رکھیں اسی میں آپ کی سببائی ہے اگر آپ ظاہر کریں گے تو عمل میں رکاوٹیں آئیں گی اور عمل چھوٹ جائے گا اگر آپ

شرائط ریاضت تسخیرات

آج کل فریسا تمام خواتین و حضرات تسخیر موکلات اور جنات وغیرہ کے شائق ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں یہ کام جس قدر آسان نظر آتا ہے اس قدر آسان نہیں بلکہ بہت ہی مشکل ہے مگر یاد رہے جب منزل اہل جائے تو راستوں کی تمام مشکلات و پریشانیاں انسان بھول جاتا ہے۔

جو خواتین و حضرات کوئی دعوت تسخیرات موکلات یا جنات شروع کرنا چاہیں تو ان پر لازم ہے کہ پہلے وہ مطلوبہ جگہ سے عام دوہاں کے رہائشی جن کو رخصت کریں کیونکہ عامل کے خلاف سب سے پہلے یہی رکاوٹ ڈال کر عمل ختم کر دیتا ہے یا کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اس کے بعد عامل خواتین و حضرات کو حجاب آنے چاہئیں۔ حجاب کے موکلات عامل کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں اصراف یعنی قسم برائے عام اور حجاب آپ محبتہ روحانیات کے پتے سے ہدیہ حاصل کر سکتے ہیں۔

اب میں ۹ شرائط ریاضت تسخیرات تحریر کر رہا ہوں۔ ان پر عمل بھی بہت ضروری ہے۔ ان شرائط کو پورا کرتے ہوئے آپ جو تسخیر کا عمل کریں گے اللہ تعالیٰ فتح و نصرت، کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔

صبر، طلب اور محنت سے عمل کرتے رہے تو یقیناً تسخیر کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی یہ مادیاتی مخلوق ان سے خوش ہوئی ہیں جو ان کی باتیں راز میں رکھتے ہیں یعنی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔

ایک عامل تھا۔ موکل کو بلا کر باتیں کیا کرتا تھا تو پھر اپنے دوستوں کو فخریہ بیان کیا کرتا تھا کہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بہت بڑا عامل ہے اس کے قبضہ میں موکل ہے تو ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی لاش ایک گندی جگہ میں پڑی ہوئی ہے اور ایک کاغذ ایک کسی میں گروں سے بندھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا تھا یہ اس شخص کی منزل ہے جو بادشاہوں کو دموکلات کے راز کو ظاہر کرتا ہے۔

پانچویں شرط عمل کرنے والے خواتین و حضرات سے میری گزارش ہے کوئی عمل کسی لغوی یا نالائق کام کی خاطر نہ کریں کیونکہ موکلات تقویٰ و طہارت کو پسند کرتے ہیں نیک کاموں میں دعوت دینے والے (عامل) کی بھرپور مدد کرتے ہیں اور بڑے کاموں سے نفرت کھلتے ہیں۔ اگر آپ بڑے کاموں کے لیے ان سے مدد طلب کریں گے تو وہ آپ کو سخت نقصان پہنچائیں گے۔ ایک عامل کا قصہ یاد آیا۔ آپ بھی سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔

ایک عامل نے موکل کی حاضری کا عمل کیا اور کامیاب ہو گئے جب موکل کی حاضری ہوئی اور موکل نے عامل سے پوچھا کہ اسے شخص تیرا مطلب کیا ہے؟ تو نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اس عامل نے کہا کہ فلاں عورت کو پسند کرتا ہوں اس کی قربت چاہتا ہوں جاؤ اور اس عورت کو اٹھا کر میرے پاس لے آؤ بس اس کے سوا میرا کوئی مطلب نہیں موکل عامل کی

بات سنتے ہی غصہ میں آ گیا اور پھر اس عامل کو اس کے انہام تک پہنچا دیا یعنی اس کو ختم کر دیا۔

چھٹی شرط میں نے پہلی شرط میں جو غذا کھانے کو لکھی ہے اسے استعمال کریں۔ عمل والی جگہ، کپڑے پاک دھان ہوں۔ عام خوشبو اور نجس کا کثرت سے استعمال کریں کیونکہ موکلات کو خوشبو بہت پسند ہوتی ہے۔

ساتویں شرط عمل کرنے والے خواتین و حضرات عمل شروع کرنے سے پہلے تمام باتیں یعنی شرائط پہلے سے تحریر کر کے اسے ذہن نشین کر لیں جو انہوں نے موکل حاضر ہونے پر اس سے کرنی ہے۔ یاد رہے موکل حاضر ہونے پر جو آپ نے شرائط موکل سے طے کر لیں پھر تاحیات اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ وعدہ خلافی کی صورت میں موت کی باتوں میں جانا پڑے گا لہذا وقت سے پہلے تمام باتیں ذہن نشین کر لیں۔

آٹھویں شرط تسخیرات موکلات یا جنات وغیرہ کے لیے حصار بہت ضروری ہوتا ہے یوں تو بزرگوں و عالمین سے منسوب کئی حصار ملتے ہیں مگر آیت الکھوسی معہ اسمائے الہیٰ سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور عروہ مقطعات کا حصار سب سے مشہور اور دریا حصار ہوتا ہے۔

نویں شرط میرا مشورہ ہے کہ موکل یا جن وغیرہ کو اپنے سامنے حاضر کرنے سے پہلے اس کی حاضرات کا عمل کر لیں تو بہتر ہے اس حاضرات سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عامل اور مطلوبہ مخلوق سے تسامی ہو جاتی ہے۔ بار بار حاضرات کرنے سے یہ مخلوق آپ سے مانوس ہو جائے گی اور جب آپ اس کو تسخیر کرنے کی دعوت دیں گے تو یہ تسامی سے

فہرست دعواتِ جنات

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر
۱۷	سورۃ فاتحہ کے جن مصطیث کی تسخیر کا عمل	۱
۱۸	سورۃ بقرہ کے جن خادم مصطیث کو بلانے کا عمل	۲
۱۹	سورۃ عمران کے جن مصطیث کی حاضری کا عمل	۳
۲۰	سورۃ نساء کے جن مصطیث کو قابو کرنے کا عمل	۳
۲۱	سورۃ مائدہ کے جن مصطیث کی دعوت کا عمل	۴
۲۲	سورۃ انعام کے جن مصطیث کی تسخیر کا عمل	۵
۲۳	سورۃ اعراف کے جن خادم مصطیث کو بلانے کا عمل	۶
۲۴	سورۃ انفال کے جن مصطیث کی حاضری کا عمل	۷
۲۵	سورۃ توبہ کے جن خادم مصطیث کو قابو کرنے کا عمل	۸
۲۶	سورۃ یونس کے جن خادم مصطیث کو بلانے کا عمل	۹
۲۷	سورۃ حمود کے جن جنطیث کی تسخیر کا عمل	۱۰
۲۸	سورۃ یوسف کے جن خادم مصطیث کو بلانے کا عمل	۱۱
۲۹	سورۃ زمرہ کے جن مصطیث کی حاضری کا عمل	۱۲
۳۰	سورۃ ابراہیم کے جن خادم مصطیث کو قابو کرنے کا عمل	۱۳
۳۱	سورۃ حجر کے جن خادم مصطیث کی دعوت کا عمل	۱۴
۳۲	سورۃ نمل کے جن مصطیث کی تسخیر کا عمل	۱۵
۳۳	سورۃ بنی اسرائیل کے جن خادم مصطیث کو بلانے کا عمل	۱۶
۳۴	سورۃ کہف کے جن مصطیث کی حاضری کا عمل	۱۷

تسخیر ہو جائے گی۔ مندرجہ بالا شرائط کے علاوہ اور بھی شرائط ہیں مگر وہ عمل کے لحاظ سے مقرر کی جاتی ہیں۔ میں نے جو نو شرائط تحریر کی ہیں وہ ہر عمل کے لیے ضروری ہیں۔

طالب علم عا
صوفی محمد ندیم محمدی
مدیر اعلیٰ: روحانیات کراچی

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۶۰	سورۃ زمر کے خادم جن و کھٹیش کو قابو کرنے کا عمل۔	۳۹
۶۱	سورۃ مؤمن کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۴۰
۶۲	سورۃ حجر سجدہ کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۴۱
۶۳	سورۃ شوریٰ کے جن و کھٹیش کو بلانے کا عمل۔	۴۲
۶۴	سورۃ زخرف کے جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۴۳
۶۵	سورۃ صف کے خادم جن و کھٹیش کو قابو کرنے کا عمل۔	۴۴
۶۶	سورۃ ہاشمہ کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۴۵
۶۷	سورۃ احقاف کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۴۶
۶۸	سورۃ محمد کے جن و کھٹیش کو بلانے کا عمل۔	۴۷
۶۹	سورۃ فتح کے جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۴۸
۷۰	سورۃ تحرات کے خادم جن و کھٹیش کو قابو کرنے کا عمل۔	۴۹
۷۱	سورۃ ق کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۵۰
۷۲	سورۃ زاریات کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۵۱
۷۳	سورۃ طور کے جن و کھٹیش کو بلانے کا عمل۔	۵۲
۷۴	سورۃ البقرہ کے جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۵۳
۷۵	سورۃ قمر کے خادم جن و کھٹیش کو قابو کرنے کا عمل۔	۵۴
۷۶	سورۃ رحمن کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۵۵
۷۷	سورۃ واقعہ کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۵۶



صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۳۵	سورۃ مریم کے خادم جن و کھٹیش کو قابو کرنے کا عمل۔	۱۹
۳۶	سورۃ طہ کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۲۰
۳۷	سورۃ انبیاء کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۲۱
۳۸	سورۃ حج کے جن و کھٹیش کو بلانے کا عمل۔	۲۲
۳۹	سورۃ مؤمنین کے جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۲۳
۴۰	سورۃ نور کے خادم جن و کھٹیش کو قابو کرنے کا عمل۔	۲۴
۴۱	سورۃ فرقان کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۲۵
۴۲	سورۃ شعراء کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۲۶
۴۳	سورۃ نمل کے جن و کھٹیش کو بلانے کا عمل۔	۲۷
۴۴	سورۃ قصص کے جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۲۸
۴۵	سورۃ عنکبوت کے خادم جن و کھٹیش کو قابو کرنے کا عمل۔	۲۹
۴۶	سورۃ روم کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۳۰
۴۷	سورۃ لقمان کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۳۱
۴۸	سورۃ سجدہ کے جن و کھٹیش کو بلانے کا عمل۔	۳۲
۴۹	سورۃ احزاب کے جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۳۳
۵۰	سورۃ سباء کے خادم جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۳۴
۵۱	سورۃ فاطر کے خادم جن و کھٹیش کی دعوت کا عمل۔	۳۵
۵۲	سورۃ یس کے جن و کھٹیش کی تسخیر کا عمل۔	۳۶
۵۳	سورۃ صافات کے جن و کھٹیش کو بلانے کا عمل۔	۳۷
۵۴	سورۃ ص کے جن و کھٹیش کی حاضری کا عمل۔	۳۸

نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۵۷	سورۃ حدید کے جن خادم جیٹیش کو بلانے کا عمل	۷۸
۵۸	سورۃ مجادلہ کے جن زبیطیش کی حاضری کا عمل	۷۹
۵۹	سورۃ حشر کے خادم جن جیٹیش کو قابو کرنے کا عمل	۸۰
۶۰	ممتحنہ کے جن طیطیش کی تسخیر کا عمل	۸۱
۶۱	سورۃ صف کے جن خادم ونطیش کی تسخیر کا عمل	۸۲
۶۲	سورۃ جمعہ کے جن وسطیش کی حاضری کا عمل	۸۳
۶۳	سورۃ منافقون کے خادم جن زبیطیش کو قابو کرنے کا عمل	۸۴
۶۴	سورۃ تغابن کے خادم جن جیٹیش کی دعوت کا عمل	۸۵
۶۵	سورۃ طلاق کے خادم جن طفطیش کی دعوت کا عمل	۸۶
۶۶	سورۃ تحریم کے جن زبیطیش کی تسخیر کا عمل	۹۲
۶۷	سورۃ ملک کے جن خادم طیطیش کی تسخیر کا عمل	۹۳
۶۸	سورۃ القلم کے جن طیطیش کو بلانے کا عمل	۹۴
۶۹	سورۃ حاقہ کے خادم جن طفطیش کو قابو کرنے کا عمل	۹۵
۷۰	سورۃ معارج کے خادم جن وسطیش کی دعوت کا عمل	۹۶
۷۱	سورۃ نوح کے جن جیٹیش کی تسخیر کا عمل	۹۷
۷۲	سورۃ جن کے جن خادم جیٹیش کو بلانے کا عمل	۹۸
۷۳	سورۃ منزل کے جن وسطیش کی حاضری کا عمل	۹۹
۷۴	سورۃ مدثر کے خادم جن وسطیش کو قابو کرنے کا عمل	۱۰۰
۷۵	سورۃ قیامہ کے خادم جن جنطیش کی دعوت کا عمل	۱۰۱
۷۶	سورۃ دھر کے جن اعطیش کی تسخیر کا عمل	۱۰۲

نمبر	مضمون	نمبر
۱۰۴	سورۃ مرسلات کے جن خادم وسطیش کو بلانے کا عمل	۷۷
۱۰۵	سورۃ النہا کے جن کی حاضری کا عمل	۷۸
۱۰۶	سورۃ نازعات کے خادم جن وسطیش کو قابو کرنے کا عمل	۷۹
۱۰۷	سورۃ عبس کے خادم جن جنطیش کی دعوت کا عمل	۸۰
۱۰۸	سورۃ تکویر کے جن وسطیش کی تسخیر کا عمل	۸۱
۱۰۹	سورۃ انفطار کے جن خادم وسطیش کو بلانے کا عمل	۸۲
۱۱۰	سورۃ مطفئین کے جن وسطیش کی حاضری کا عمل	۸۳
۱۱۱	سورۃ الشقاق کے خادم جن وسطیش کو قابو کرنے کا عمل	۸۴
۱۱۲	سورۃ بردج کے خادم جن جیٹیش کی دعوت کا عمل	۸۵
۱۱۳	سورۃ طارق کے جن زبیطیش کی تسخیر کا عمل	۸۶
۱۱۴	سورۃ الاعلیٰ کے جن خادم جیٹیش کو بلانے کا عمل	۸۷
۱۱۵	سورۃ الغاشیہ کے جن وسطیش کی حاضری کا عمل	۸۸
۱۱۶	سورۃ فجر کے خادم جن جیٹیش کو قابو کرنے کا عمل	۸۹
۱۱۷	سورۃ بلد کے خادم جن وسطیش کی دعوت کا عمل	۹۰
۱۱۸	سورۃ شمس کے جن وسطیش کی تسخیر کا عمل	۹۱
۱۱۹	سورۃ اللیل کے جن خادم وسطیش کو بلانے کا عمل	۹۲
۱۲۰	سورۃ الضحیٰ کے جن طیطیش کی حاضری کا عمل	۹۳
۱۲۱	سورۃ شرح کے خادم جن وسطیش کو قابو کرنے کا عمل	۹۴
۱۲۲	سورۃ التین کے خادم جن زبیطیش کی دعوت کا عمل	۹۵
۱۲۳	سورۃ العلق کے جن اعطیش کی تسخیر کا عمل	۹۶



سورة فاتحه کے جن زصطیش کی تسخیر کا عمل

پڑھ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے حرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے نوبان مہکائیں پھر صابن باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصال ثواب حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم دو نفل رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳۰-۳۱ مرتبہ پڑھیں اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة فاتحه ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں، اسی ترکیب سے سورة کی تعداد ۹۴۶۶ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد شفا خدا کے جن زصطیش کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو پہلی بات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چاہے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ يَا نَصِیْطِشْ بِحَقِّ سُوْرَةِ
فَاتِحَةِ بِحَقِّ كَلِمَتَيْ عَصْ بِحَقِّ سُلَيْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشِّمَالِ يَا
يَا نَصِیْطِشْ يَا زَصْطِیْشْ حَاضِرْ شَوْ

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۲۳	سورة القدر کے جن خادم صطیش کو بلانے کا عمل	۹۷
۱۲۴	سورة البینہ کے جن صطیش کی حاضری کا عمل	۹۸
۱۲۵	سورة الزلزال کے خادم جن صطیش کو قابو کرنے کا عمل	۹۹
۱۲۶	سورة العادیات کے خادم جن صطیش کی دعوت کا عمل	۱۰۰
۱۲۷	سورة القارعة کے جن صطیش کی تسخیر کا عمل	۱۰۱
۱۲۸	سورة الفکاکر کے جن خادم صطیش کو بلانے کا عمل	۱۰۲
۱۲۹	سورة العصر کے جن صطیش کی حاضری کا عمل	۱۰۳
۱۳۰	سورة الحمزة کے خادم جن صطیش کو قابو کرنے کا عمل	۱۰۴
۱۳۱	سورة الفیل کے خادم جن صطیش کی دعوت کا عمل	۱۰۵
۱۳۲	سورة قریش کے جن صطیش کی تسخیر کا عمل	۱۰۶
۱۳۳	سورة الماعون کے جن خادم صطیش کو بلانے کا عمل	۱۰۷
۱۳۴	سورة الکوتر کے جن زصطیش کی حاضری کا عمل	۱۰۸
۱۳۵	سورة الکافرون کے خادم جن صطیش کو قابو کرنے کا عمل	۱۰۹
۱۳۶	سورة النصر کے خادم جن صطیش کی دعوت کا عمل	۱۱۰
۱۳۷	سورة اللہب کے جن صطیش کی تسخیر کا عمل	۱۱۱
۱۳۸	سورة اخلاص کے جن خادم صطیش کو بلانے کا عمل	۱۱۲
۱۳۹	سورة الفلق کے جن صطیش کی حاضری کا عمل	۱۱۳
۱۴۰	سورة الناس کے خادم جن صطیش کو قابو کرنے کا عمل	۱۱۴



سُورَةُ بَقَرَةَ "کے جن خادم" حصطیش کو بلانے کا عمل

سُورَةُ بَقَرَةَ "کے جن خادم" حصطیش کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "حصطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ تکمیل توبہ و یکسوئی کے ساتھ سُورَةُ بَقَرَةَ "کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ حُذَاکِی تَعْدَاد ۹۴۶۹ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن حُذَاکِی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضری ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ معہ عملِ حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا حَصْطِیْشَ

حَاضِرُ شَوْ حَاضِرُ شَوْ حَاضِرُ شَوْ بِحَقِّ سُورَةِ

بِحَقِّ کُلِّ عِصْ بِحَقِّ حَمِیْمِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ یَا بَدُو ح یَا بَدُو ح یَا بَدُو ح حَاضِرُ شَوْ



سُورَةُ عَمْرَانَ "کے جن" حصطیش کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور اتمامِ زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راجحیتِ قلب و سیرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ عَمْرَانَ "کے جن" حصطیش کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکمیلِ حصارِ بانہ حکم سُورَةُ حُذَاکِی پڑھیں جب سُورَةُ حُذَاکِی ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ عَمْرَانَ "کے جن" کی تعداد ۱۸۴۹۵۶ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن حصطیش کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ معہ عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل حُذَاکِی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عملِ تسخیر:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَزَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا حَصْطِیْشَ

حَاضِرُ شَوْ بِحَقِّ سُورَةِ عَمْرَانَ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تُوْرَاتِ دَانِجِیْلِ بِحَقِّ زَبُورِ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

اَلْمَدَدُ بِاللّٰهِ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ



سُورَةُ نِسَاءٍ کے خادم جن "طیطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سُورَةُ نِسَاءٍ کے خادم جن "طیطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جلے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سُورَةُ نِسَاءٍ کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سُورَةُ نِسَاءٍ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ نِسَاءٍ کی تعداد ۱۱۳۹۲۹ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن خدا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سُورَةُ نِسَاءٍ کے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عملِ خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجتِ تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عِزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا طَیطِیْشِ اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا طَیطِیْشِ

حَافِظِ شَورَکَیْنِ سُوْرَةِ النِّسَآءِ بِحَقِّ الْمَرْکُطِیْعِیْنَ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ یَا

بِدُوْدِ حَافِظِ شَورَکَیْنِ الْمَدِیْنِیِّیْنَ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

عملِ تسخیر:



سُورَةُ مَائِدَةٍ کے خادم جن "طفطیش" کی دعوت کا عمل

سُورَةُ مَائِدَةٍ کے خادم جن "طفطیش" کی تسخیر کے لیے اللہ کر کے انتظام کریں جہاں شروع عمل نہ ہو۔ نوچندی تواریک رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماع سے عمل پر مہر کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں (سوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) کرے میں داخل ہو کر یوں بان کی طوب و حصولِ ثواب پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سُورَةُ مَائِدَةٍ ۳۰ مرتبہ سُورَةُ مَائِدَةٍ پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجتِ حافری جن کی نیت سے ادا کریں اب آپ سُورَةُ مَائِدَةٍ کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ مَائِدَةٍ ختم ہو تو ۲ مرتبہ عملِ حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ مَائِدَةٍ کی تعداد ۱۱۳۹۲۹ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سُورَةُ مَائِدَةٍ کے خادم جن "طفطیش" تشریف لائیں گے جب وہ حافریوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلہ ختم کریں تو سُورَةُ مَائِدَةٍ کے عمل حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عَمَلِ حَافِرِیِّ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَجِبْ یَا طَیطِیْشِ

حَافِرِ شَورَکَیْنِ شَورَکَیْنِ سُوْرَةِ مَائِدَةٍ بِحَقِّ تَوْرِیْتِ مَوْسٰی وَ انجیلِ

عیسیٰ بِحَقِّ زَبُورِ دَاوُدَ وَ قرآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ)

الْمَدِیْنِیِّیْنَ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

سورة "العام" کے جن "دسطیش" کی تسخیر کا عمل

پرسکون ماحول اور الگ کمرہ میں یہ عمل کریں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے ٹوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "العام" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد "۹۳۵۳۲۹" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بجز خدا کے جن "دسطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو بہاریات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اُرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ يَا دَسْطِیْشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
الْعَامِ بِحَقِّ كَلْبِیْنَعِصْ بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا دَسْطِیْشِ
يَا دَسْطِیْشِ يَا دَسْطِیْشِ حَاضِرٌ شَوْ

سورة "اعراف" کے جن خادم "دسطیش" کو بلانے کا عمل

سورة "اعراف" کے جن خادم "دسطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں ٹوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "دسطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ عمل توبہ دیکھنے کے ساتھ سورة "اعراف" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھ لیں تو ۳ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد "۳۵۳۵۹۲۲" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم تر خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ يَا دَسْطِیْشِ
حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ اِعرَافِ
بِحَقِّ كَلْبِیْنَعِصْ بِحَقِّ حَمْعِیْنِ
بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ يَا بَدُوْحُ يَا بَدُوْحُ يَا بَدُوْحُ حَاضِرٌ شَوْ



سُورَةُ الْاِنْفَالِ "کے جن" طمطیش کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ الْاِنْفَالِ "کے جن" طمطیش کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حصار باندھ کر سُورَةُ الْاِنْفَالِ ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ الْاِنْفَالِ کی تعداد ۱۱۲۲۷ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "طمطیش" کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر جبری ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سُورَةُ الْاِنْفَالِ کے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ حُذَا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

عملِ تسخیر:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عِزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا طَمَطِیْشِ

حَاقُوْشُوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ الْاِنْفَالِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تُوْرَاتِ وَاَنْجِیْلِ بِحَقِّ زَبُوْرٍ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ

سُورَةُ "توبہ" کے خادم جن "و عطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سُورَةُ "توبہ" کے خادم جن "و عطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جلے نماز پڑھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سُورَةُ الْاِنْفَالِ کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سُورَةُ الْاِنْفَالِ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ الْاِنْفَالِ کی تعداد ۱۱۲۲۷ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن حُذَا کی تسخیر ہوگی بعد چلے سُورَةُ الْاِنْفَالِ کے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ حُذَا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عِزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا وِعْطِیْشِ اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا

حَاقُوْشُوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ تُوْبَةٍ بِحَقِّ الْمَرْکُھِیْعِیْنَ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ یَا

بِدُوْحِ حَاقُوْشُوْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عملِ تسخیر:



سُورَةُ "يونس" کے خادم جن "حنطیش" کی دعوت کا عمل

سُورَةُ "يونس" کے خادم جن "حنطیش" کی تسخیر کے لیے الگ کر کے کا انتظام کریں
 جہاں شور و غل نہ ہو۔ نوچندی اتوار کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
 آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
 اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
 رسوٹی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں (کمرے میں داخل ہو کر یوں بان کی
 خوب دھونی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ اور دو نفل
 نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دو نفل رکعت میں بعد سُورَةُ
 الفاتحہ ۲-۳ مرتبہ سُورَةُ اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجتِ حافری جن کی نیت سے
 ادا کریں اب آپ سُورَةُ "يونس" کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ ختم ہو تو ۲ مرتبہ
 عملِ حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ کی تعداد ۱۰۸۔۵۵ کوسات یا گیارہ دن
 میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سُورَةُ "يونس" کے خادم جن "حنطیش" تشریف
 لائیں گے جب وہ حافر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلے ختم کریں تو سُورَةُ معہ عمل
 حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَجِبْ يٰ حَنْطِیْشِ

حافر شو حافر شو حافر شو بِحَقِّ سُورَةُ يونس بِحَقِّ تَوْرِيْتِ مَوْسٰی وَ انجیلِ
 عِیْسٰی بِحَقِّ زَبُورِ دَاوُدَ وَ قرآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللّٰهِ (صلی اللہ علیہ وسلم)

الحد والواسعہ جل جلالہ بِحَقِّ سُلَيْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام



سُورَةُ "هود" کے جن "حنطیش" کی تسخیر کا عمل

پڑ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں یہ عمل کریں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی
 ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
 کریں گے غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
 یوں بان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ اور دو نفل برائے
 ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دو نفل رکعت میں بعد سُورَةُ الفاتحہ سُورَةُ
 اخلاص ۲-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجتِ تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔
 اب آپ سُورَةُ "هود" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سُورَةُ
 کی تعداد ۸۱۔۵۱ کوسات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد سُورَةُ طُفَا
 کے جن "حنطیش" کی حافری ہوگی۔ جب وہ حافر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمان
 کریں۔ بعد چلے سُورَةُ معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِدْرِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ يٰ حَنْطِیْشِ بِحَقِّ سُورَةُ

هُودِ بِحَقِّ كَلِمَاتِ عَصٰی بِحَقِّ سُلَيْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام

بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضَرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ

وَالْمَغَارِبِ اُحْضَرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يٰ حَنْطِیْشِ

يٰ حَنْطِیْشِ يٰ حَنْطِیْشِ حَافِوْشِ

سُورَةُ يُوسُفَ "كے جن خادم" طنطیش کو بلانے کا عمل

سُورَةُ "يوسف" کے جن خادم "طنطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چذ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "طنطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توبہ دیکھوئی کے ساتھ سُورَةُ "يوسف" کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ ہذا کی تعداد ۳۹۸۰ کوسات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن ہذا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضری ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چذ آپ سُورَةُ معہ عملِ حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عملِ حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اقسمت عليك يا طنطيش
حاضر شو حاضر شو حاضر شو بحقی سورة يوسف
بِحَقِّ كُنْيَعِصْ بِحَقِّ خَمْعِصْ
بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ يَا بَدُوْحُ يَا بَدُوْحُ يَا بَدُوْحُ حَاضِرْ شَوْ



سُورَةُ رَعْدٍ "کے جن زکطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز چھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینه حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ "رعد" کے جن "زکطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حصار بانہ کر سُورَةُ ہذا کو پڑھیں جب سُورَةُ ہذا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ "رعد" کی تعداد ۳۹۸۰ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "زکطیش" کی حاضری ہوگی پھر یہ ہونے پر بڑی پوشیدگی کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چذ آپ سُورَةُ معہ عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل ہذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عملِ تسخیر:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عزمت عليك يا زكطيش
حاضر شو بحقی سورة رعد
بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ تُوْدَاتٍ وَانجیلِ بِحَقِّ زَبُورِ
قرآن مجید
المدد يا الله يا الله يا الله



سورة ابراهيم کے خادم جن "حکطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة "ابراہیم" کے خادم جن "حکطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة ہذا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة ہذا کی تعداد "۲۴۹۸۱۸" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن ہذا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل ہذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا حَکطِیْشِ اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا حَکطِیْشِ
 حَافِرُ شَرِیْکِیْ سُوْرَةِ اِبْرٰہِیْمِ رَجَحْتِیْ اَلْمَدَکَیْفِیْعَہَ
 رَجَحْتِیْ سَلِیْمَانَ بِنِ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَامُ رَجَحْتِیْ یَا
 بَدُو حَافِرُ شَرِیْکِیْ اَلْمَدَیْ اَللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمل تسخیر:



سورة "حجر" کے خادم جن "بیطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "حجر" کے خادم جن "بیطیش" کی تسخیر کے لیے اللہ کرے گا نظام کریں جہاں شروع نہ ہو۔ نوجندی اولاد کی ملت یا جماعت یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک مہینہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماعت سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں (سوتی سفید یا آسمانی شکر تسخیر بھی نزدیک کر سکتے ہیں) کرے میں داخل ہو کر یوں بان کی خوب وصولی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاخرد ۳-۲ مرتبہ سورة مؤمن پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حافری جن کی نیت سے ادا کریں اب آپ سورة "حجر" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "حجر" کی تعداد ۱۰۰، ۱۰۰۰ سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "حجر" کے خادم جن "بیطیش" تشریف لائیں گے جب وہ حافری ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلہ ختم کریں تو سورة معہ عمل حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَجِبْتُ یَا بَیْطِیْشِ
 حَافِرُ شَرِیْکِیْ حَافِرُ شَرِیْکِیْ سُوْرَةِ حَجْرِ رَجَحْتِیْ قُوْدِیْتَ مَوْسٰی وَ اَنْجِیْلِی
 عِیْسٰی رَجَحْتِیْ زَبُوْرَ دَاوُدَ وَ قُرْآنَ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلِّیْ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلِّمْ)
 الْعَدُو الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُہُ رَجَحْتِیْ سَلِیْمَانَ بِنِ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَامُ

سُورَةُ نَحْلٍ "کے جن" انطیش کی تسخیر کا عمل

پرسکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے اترا م سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورۃ الفاتحہ سورۃ اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورۃ "نحل" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورۃ کی تعداد "۵۲۰۱۸۸" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ملکہ سُورۃ خدا کے جن "انطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورۃ معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْکَ یَا اَنْطِیْشَ بِحَقِّ سُوْرَةِ
نَحْلِ بِحَقِّ کَلِیْعَصَ بِحَقِّ سُلَیْمٰنَ بِنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ لَادِیْهِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضِرُوْهُ مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْهُ مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ یَا اَنْطِیْشَ
یَا اَنْطِیْشَ یَا اَنْطِیْشَ حَاضِرٌ شَوْ

سُورَةُ "بَنی اسرائیل" کے جن خادم "حکطیش" کو بلانے کا عمل

سُورَةُ "بَنی اسرائیل" کے جن خادم "حکطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "حکطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مجلس توبہ دیکھ سوائے کے ساتھ سُورَةُ "بَنی اسرائیل" کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل مغفرت پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ خدا کی تعداد "۶۶۵۸۱۸" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم تر خدا کی مغفرت ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے احب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلے آپ سُورَةُ معہ عمل مغفرت کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں بلکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل مغفرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا حَکطِیْشَ
حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ بَنی اِسْرَائِیْلَ
بِحَقِّ کَلِیْعَصَ بِحَقِّ حَمْعَسَ
بِحَقِّ سُلَیْمٰنَ بِنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ یَابَدُوْحَ یَابَدُوْحَ یَابَدُوْحَ حَاضِرٌ شَوْ



سورة "کہف" کے جن "طنطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سورة "کہف" کے جن "طنطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکمل حصار باندھ کر سورة هذا کو پڑھیں جب سورة هذا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "کہف" کی تعداد "۵۰۵۵۱" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اعظم جن "طنطیش" کی حاضری ہوگی بھاری ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سورة مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ هذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا طنطیش

حافضو بحقی سورة کہف

بحقی سلیمان بن داؤد علیہ السلام

بحقی تورات و انجیل بحقی زبور

قرآن مجید

المدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ

عملِ تسخیر:-



سورة "مریم" کے خادم جن "دکطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة "مریم" کے غلام جن "دکطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی پلنگاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة هذا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة هذا کی تعداد ۱۱۹ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن هذا کی تسخیر ہوگی بعد چلے سورة مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ هذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تا قرآن خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا دکطیش اقسمت علیکم یا دکطیش

حافر شریحی سورة مریم بحقی المرکطیحص

بحقی سلیمان بن داؤد علیہ السلام بحقی یا

بدو حافر شو المدد یا اللہ الرحمن الرحیم

عملِ تسخیر:

سورة "طله" کے خادم جن "دلطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "طله" کے خادم جن "دلطیش" کی تسخیر کے لیے اللہ کے انتظام میں جہاں شروع نہیں ہو۔ نوچندی اتوار کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں اور جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک پہلے پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جمعہ سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں دسویں سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں، کمرے میں داخل ہو کر لوہان کی خوب دھوئی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل نماز برائے ایصال ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ ۲-۲ مرتبہ سورة اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حاضری ہی کی نیت سے ادا کریں اب آپ سورة "طله" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "طله" کا تعداد ۳۸۲۲۱۸ گزرات یا پورا کر لیں پورا کریں۔ اثناء اللہ تعالیٰ بصدقة طہا میں پورا کریں۔ اثناء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "طله" کے خادم جن "دلطیش" تشریح لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو جہد و پیمان کریں۔ جب آپ جہد ختم کریں تو سورة بعد عمل حاضری کو ۸ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری: بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجب یا دلطیش حاضر شود حاضر شود حاضر شود بخیر سورة طلہ بخیر توبت مونس و انجیل صلوات بخیر ذبور داؤد و قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والہ وسلم جل جلالہ بخیر سلیمان بن داؤد علیہ السلام

سورة "انبیاء" کے جن "دلطیش" کی تسخیر کا عمل

پرسکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک پہلے پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جمعہ سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوہان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصال ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "انبیاء" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۲ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد ۳۸۲۲۱۸ گزرات یا پورا کر لیں۔ اثناء اللہ تعالیٰ بصدقة طہا کے جن "دلطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو جہد و پیمان کریں۔ بعد جہد سورة بعد عمل تسخیر کو ۸ مرتبہ درد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجب یا دلطیش بخیر سورة انبیاء بخیر توبت مونس و انجیل صلوات بخیر ذبور داؤد و قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ والہ وسلم جل جلالہ بخیر سلیمان بن داؤد علیہ السلام

سُورَةُ حَجِّ "کے جن خادم" جَلَطِيشِ "کو بلانے کا عمل"

سُورَةُ حَجِّ "کے جن خادم" جَلَطِيشِ "کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوہان کی دھوئی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ نفل نماز حاجت جن "جَلَطِيشِ" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توبہ و کسوٹی کے ساتھ سُورَةُ حَجِّ "کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ حَجِّ تکمیل تو مرتبہ عملِ حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ حَجِّ کی تعداد ۳۳۳۳ تک کہتے یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم یہ خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہو تو ان سے شے حب والترام سے ہمد پیمان کریں پھر اس پر تائیدات عمل کرتے ہیں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ حَجِّ کا عمل پڑھنے سے وہ میں رکھیں بلکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ بِاَحْبِلَطِيشِ
حَاضِرُ شُوحَاضِرُ حَاضِرُ شُوحَ حَقِّ سُوْرَةُ حَجِّ
حَقِّ كَلْبِعَصِّ حَقِّ حَمْعَسَقِ
حَقِّ سَلِيْمَانِ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
حَقِّ يَا بَدُوْحُ يَا بَدُوْحُ حَاضِرُ شُوحِ

عملِ حاضری



سُورَةُ "مُؤْمِنُوْنَ" کے جن "طَلَطِيشِ" کی حاضری کا عمل

رات طہجد ہفتاد ہاتھ پاکی و مکرہ میں پہلے سے تیار کر دے غیب جاکے نماز پچائیں اور اگر ام ازیب تک کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز بلانے ایصالِ ثواب ناچار مدینہ یا حاجت قلب و سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ "مُؤْمِنُوْنَ" کے جن "طَلَطِيشِ" کی نیت سے ادا کریں۔ اب عملِ حصار بانہ گزرتے ہذا کو پڑھیں جب سُورَةُ حَجِّ ختم ہو تو ۳۳۳۳ تک عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ "مُؤْمِنُوْنَ" کی تعداد ۳۳۳۳ تک پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "طَلَطِيشِ" کی حاضری ہوگی جنہی ہونے پر بھی پوزیشن کی ساتھ ہمد پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ حَجِّ تکمیل تو مرتبہ اپنے قدم میں رکھیں بلکہ عملِ حصار کی استقامت و دعائیت آپ کے پاس رہے گا۔

عملِ تسخیر:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ بِاَطَلَطِيشِ
حَاضِرُ شُوحِ حَقِّ سُوْرَةُ "مُؤْمِنُوْنَ"
حَقِّ سَلِيْمَانِ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
حَقِّ تُوْرَاتِ وَاَنْجِلِ حَقِّ زُبُوْرٍ

قرآن مجید

الْمَدَدُ بِاللّٰهِ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ

سورة "نور" کے خادم جن "طمطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة "نور" کے خادم جن "طمطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة طحا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة طحا کی تعداد ۳۵۷ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن طحا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل طحا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ابصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے او کریں۔ تاثر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا طمطیش اقسمت علیکم یا طمطیش

حاضر شو بکنی سورة نور بکنی المرکب لعیص

بکنی سلیمان بن داؤد علیہ السلام بکنی یا

بدو ۳ حاضر شو المدد یا اللہ الرحمن الرحیم

عمل تسخیر:



سورة "فرقان" کے خادم جن "حکطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "فرقان" کے خادم جن "حکطیش" کی تسخیر کے لیے الگ کر کے استعمال کریں یہاں شروع دل نہ ہو۔ نوچندی تواریک ملت یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک جگہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماع سے عمل پر پورے گاہ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں (سوئی سفید یا آسمانی شکل قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) کمرے میں داخل ہو کر یوں بان کی خوب دھونی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ دیکھ کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل نماز برائے ابصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نفل رکعت میں بعد سورة طحا ۳-۲ مرتبہ سورة غافر پڑھیں اور دو نفل نماز حاجت حاضری جن کی نیت سے او کریں اب آپ سورة "فرقان" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "فرقان" کی تعداد ۱۰۹۵۱ رکعات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "فرقان" کے خادم جن "حکطیش" تشریف لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو حمد و پیمان کریں۔ جب آپ چلہ ختم کریں تو سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَجِبْ یا

حاضر شو حاضر شو حاضر شو بکنی سورة فرقان بکنی توریت موسیٰ و انجیل

عیسیٰ بکنی زبور داؤد و قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

المدد الواسع جل جلالہ بکنی سلیمان بن داؤد علیہ السلام

سورة "شعراء" کے جن "جمطیش" کی تسخیر کا عمل

پڑھ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے اجرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "شعراء" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد ۳۰۳۸ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بملفوظ خدا کے جن "جمطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چالیس سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اُرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ يَا جَمَطِيْشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
شُعْرَاءَ بِحَقِّ كَلْبِيْعَصْ بِحَقِّ سُلَيْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ لَالِهَةِ اَللّٰهِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا جَمَطِيْشِ
يَا جَمَطِيْشِ يَا جَمَطِيْشِ حَاضِرُوْا

سورة "نمل" کے جن قادم "جلطیش" کو بلانے کا عمل

سورة "نمل" کے جن قادم "جلطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دو نفل نماز حاجت جن "جلطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ نمل توبہ دیکھ سونے کے ساتھ سورة "نمل" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد ۹۶۲ ہتھکوسات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم تر خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہو تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا جَلَطِيْشِ
حَاضِرُوْا حَاضِرُوْا حَاضِرُوْا حَاضِرُوْا حَاضِرُوْا حَاضِرُوْا حَاضِرُوْا حَاضِرُوْا
بِحَقِّ كَلْبِيْعَصْ بِحَقِّ خَمْتَسَقِ
بِحَقِّ سُلَيْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ يٰ اَبْدُوْا يٰ اَبْدُوْا يٰ اَبْدُوْا حَاضِرُوْا



سورة "قصص" کے جن "امطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرے میں پہلے سے تیار کردہ سفید جاکے نماز پچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز بکائے ایصال ثواب تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سورة "قصص" کے جن "امطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکمل حصار بانڈھ کر سورة خدا کو پڑھیں جب سورة خدا ختم ہو تو ۲ مرتبہ عمل تسبیح پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "قصص" کی تعداد ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۶۰، ۲۸۰، ۳۰۰، ۳۲۰، ۳۴۰، ۳۶۰، ۳۸۰، ۴۰۰، ۴۲۰، ۴۴۰، ۴۶۰، ۴۸۰، ۵۰۰، ۵۲۰، ۵۴۰، ۵۶۰، ۵۸۰، ۶۰۰، ۶۲۰، ۶۴۰، ۶۶۰، ۶۸۰، ۷۰۰، ۷۲۰، ۷۴۰، ۷۶۰، ۷۸۰، ۸۰۰، ۸۲۰، ۸۴۰، ۸۶۰، ۸۸۰، ۹۰۰، ۹۲۰، ۹۴۰، ۹۶۰، ۹۸۰، ۱۰۰۰ تک پڑھیں تاکہ عمل خدا کی سعادت و نورا نیت آپ کے پاس سب سے عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز بکائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز بکائے حاجت تسبیح جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

عمل تسبیح - ۱

حافظ شوہنچی سورة قصص

یحییٰ سلیمان بن داؤد علیہ السلام

یحییٰ تورات و انجیل یحییٰ زبور

قرآن مجید

المدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ



سورة "عنکبوت" کے قدام ابن "جکطیش" کو قاپو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات بکینہ پروردی اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن بچھڑا جائے کہ یہی آپ کے حق حصول مدعا نیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة "عنکبوت" کے قدام جن "جکطیش" کو تسبیح یعنی قاپو کرنے کے لیے اپنی جگہ گاہ میں جاکے نماز پڑھ کر پہلے حصار بانڈھیں پھر سورة خدا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو سورہ جلی تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة خدا کی تعداد ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۴۰، ۲۶۰، ۲۸۰، ۳۰۰، ۳۲۰، ۳۴۰، ۳۶۰، ۳۸۰، ۴۰۰، ۴۲۰، ۴۴۰، ۴۶۰، ۴۸۰، ۵۰۰، ۵۲۰، ۵۴۰، ۵۶۰، ۵۸۰، ۶۰۰، ۶۲۰، ۶۴۰، ۶۶۰، ۶۸۰، ۷۰۰، ۷۲۰، ۷۴۰، ۷۶۰، ۷۸۰، ۸۰۰، ۸۲۰، ۸۴۰، ۸۶۰، ۸۸۰، ۹۰۰، ۹۲۰، ۹۴۰، ۹۶۰، ۹۸۰، ۱۰۰۰ تک پڑھیں تاکہ عمل خدا کی سعادت و نورا نیت آپ کے پاس سب سے عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز بکائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز بکائے حاجت تسبیح جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا جکطیش اقسنت علیکم یا جکطیش

حاضر شوہنچی سورة عنکبوت یحییٰ المد کھٹیش

یحییٰ سلیمان بن داؤد علیہ السلام یحییٰ یا

مدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ

عمل تسبیح:

سورة روم کے خادم جن بکطیش کی دعوت کا عمل

سورة روم کے خادم جن بکطیش کی تسخیر کے لیے ایک جمعہ کا انتظام کریں
 جہاں خود غل نہ ہو۔ نوچندی اتوار کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
 آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
 اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
 (سوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) کرے میں داخل ہو کر لوہان کی
 خوب دھونی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل
 نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دو نفل رکعت میں بعد سورة
 الفاتحہ ۳-۳ مرتبہ سورة اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حافری جن کی نیت سے
 ادا کریں اب آپ سورة " روم " کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ
 عمل حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة " روم " کی تعداد ۹۹۹ کر سات یا بارہویں
 میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة " روم " کے خادم جن بکطیش تشریف
 لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلے ختم کریں تو سورة معہ عمل
 حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری: بسم اللہ الرحمن الرحیم اَجِبْ يَا بَكطِيش
 حافر شو حافر شو حافر شو بِحَقِّ سُورَةِ رُومِ بِحَقِّ تَوْرِيْتِ مُوسَىٰ وَانجِيلِ
 عِيسَىٰ بِحَقِّ زَبُورِ دَاوُدَ وَقُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 اَسَدُ الْوَاوِاسِ جَلَّ جَلَالُهُ بِحَقِّ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سورة لقمان کے جن طاہیش کی تسخیر کا عمل

پڑ سکون ماحول اور انگ کرہ میں بیٹھ لیں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی
 ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
 کریں گے غسل کر کے احرام سفید پڑے گا پہن لیں پھر کرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
 لوہان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے
 ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دو نفل رکعت میں بعد سورة الفاتحہ سورة
 اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔
 اب آپ سورة " لقمان " ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة
 کی تعداد ۹۰۰۰ کر سات یا بارہویں میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد سورة لقمان
 کے جن طاہیش کی حافری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو عہد و پیمان کے مطابق عہد و پیمان
 کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَدْرِیْ اَنْظُرَ الْیَتِّمَ یَا هَاطِیْشِ بِحَقِّ سُورَةِ
 لُقْمٰنِ بِحَقِّ کَلِمٰتِ عَصِ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لٰاِلهِ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ یَا هَاطِیْشِ
 یَا هَاطِیْشِ یَا هَاطِیْشِ حَاضِرُ شَوْ

سُورَةُ الْحَزَابِ "کے جن" زلطیش کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ ساون اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے نیا کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سیرتِ محترمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ الْحَزَابِ "کے جن" زلطیش کی نیت سے ادا کریں۔ سب مکمل حصارِ بانہ کر سُورَةُ الْحَزَابِ کو پڑھیں جب سُورَةُ الْحَزَابِ ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ الْحَزَابِ کی تعداد ۳۵۵۷۵۸ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن زلطیش کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر قربی ہو شیلی کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سُورَةُ الْحَزَابِ کے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عِزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا زَلطِیْشِ

حَاضِرُ شَوْجِحِ سُوْرَةِ الْحَزَابِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تُوْرَاتِ دَانَجِیْلِ بِحَقِّ زَبُوْرٍ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

اَلْمَدَدُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ

عملِ تسخیر :-

سُورَةُ السَّجْدَةِ "کے جن خادم" جیطیش کو بلانے کا عمل

سُورَةُ السَّجْدَةِ "کے جن خادم" جیطیش کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "جیطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توبہ دیکھ سوتی کے ساتھ سُورَةُ السَّجْدَةِ "سجدہ" کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ السَّجْدَةِ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ السَّجْدَةِ کی تعداد ۳۳۳۲ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضری ہو تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ السَّجْدَةِ کے عملِ حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا جِیْطِیْشِ

حَاضِرُ شَوْجِحِ حَاضِرُ شَوْجِحِ سُوْرَةِ السَّجْدَةِ

بِحَقِّ کُھَیْصِ بِحَقِّ حَمَّاسِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ یَا بَدُوْحِ یَا بَدُوْحِ یَا بَدُوْحِ حَاضِرُ شَوْجِحِ

عملِ حاضری



سورة "سبا" کے خادم جن "دکطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة "سبا" کے خادم جن "دکطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة طحا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۲ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة طحا کی تعداد ۵۳۳۱۹ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جنی هذا کی تسخیر ہوگی۔ بعد چلہ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ طحا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا دکطیش اقسنت علیکم یا

حاضر شریعتی سورة سبا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمل تسخیر:



روحانی علاج کے لئے تشریف لائیں۔

یہ حقیقت ہے کہ پریشانوں میں گھرا ہوا انسان ذہنی طور پر اس قابل نہیں رہتا کہ راہنمات خود ہی تلاش کر سکے۔ لہذا آپ کسی بھی مسئلہ مثلاً آپ کو کونسا کاروبار کرنا چاہیے۔ آپ کے لئے کہاں ملازمت بہتر ہے گی۔ آپ کے لئے جیون ساتھی کیسے ہو آپ اپنے بچوں کا کیا نام رکھیں۔ آپ کا ہم انہی کا وہ کونسا ہو۔ اپنے شوہر یا بیوی کو کیسے راہ راست پر لائیں۔ تسخیر محبوب کے لئے کونسا تحفہ کریں وغیرہ وغیرہ کے لئے۔

روحانی معائنہ
صوفی محمد ندیم محمدی
کی روحانی خدمات سے فیضیاب ہوں۔

مشاورت کے لئے منسلک نمبر

☆ اوقات ملاقات — بعد مغرب تا عشاء

☆ نئے کے دن — ہفتہ ہی اور بدھ

☆ ضروری تاکید — ازراہ کرماتوں اور وقت کے مطابق وقت نہ کریں۔

☆ علاوہ کتابت — ایک وقت میں دو سوال کر سکتے ہیں۔ غلام کے ساتھ جو ابلی لغاف

اور 50 روپے کے ذرا کم ایسٹری پارچ ضرور رکھیں۔

مکتبہ روحانیات

۴۰۷۱۸ پتہ ریل کھول کر پتہ ۱۰۰ سرور کراچی کے پتے



محاضرات نہرونگلات حاصل کریں

گھر بیٹھے ہزاروں روپے کمائیں

محاضرات سوکات کو تمام خواتین، حضرات با آسانی درسی صحت کے بعد حاصل کر سکتے ہیں یہ محاضرات تمام محاضرات کی سرچنا ہے اس محاضرات کے سوکات بہت طاقتور ہیں ہر قسم کے کام میں آپ کی عمر بڑھ کر رہے ہیں سوکات سے آپ ہر قسم کے ممالک کے جواب لے سکتے ہیں مثلاً

- ہر قسم کے لاعلاج امراض کا علاج
 - اصول شفاء امراض / کشہ و عزیزہ اقارب
 - احوال ماضی و حال و مستقبل
 - تنخیرات خلائق کے عملیات
 - جائز حالات میں پرائز بانڈ کے نمبر اور فینڈ
 - دوسرے ممالک میں رہنے والے عزیزہ اقارب کے حالات
- فرض ہر جائز مقصد کے لئے جواب طلب کر سکتے ہیں آپ کو 100 فیصد درست جواب ملیں گے۔ یہ محاضرات آپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہ ہوگی۔ محاضرات حد کو حاصل کر کے عوام الناس کی خدمت کیساتھ ساتھ گھر بیٹھے ہزاروں روپے کمائیں۔

مزید تفصیلات کے لئے ملاقات کریں۔

ملاقات ہفتہ ہی اور ہفتہ روزہ گرمیوں میں اور ہفتہ کے علاوہ دستاویزی طریقے سے ملاقات ہر وقت

مکتبہ روحانیات 771/3 فیڈرل کونسل ایریا کراچی نمبر 19۔ (پاکستان) سراج الدولہ کالج قادری مسجد کے پیچھے نوزلی ایڈریس

اسم اعظم کورس کریں

گھر بیٹھے ہزاروں روپے کمائیں

اسم اعظم کورس۔ علم ہی، اللہ ہی جو تمام سلسلیں مدعوں سے اسم اعظم کی حاشیہ مکتبہ میں ہزاروں ہیں کئی کئی تہذیب کی تھیں۔ اور ان کے اس کی حاشیہ میں سب سے سب سے علم کے ساتھ میں، وہ ان وقت کو یہ مگر کئی ایک تھیں، سب کی نگاہ میں ہرگز نہ ہو سکتی تھی وہ اسم اعظم کے نام اور علم اور علم و علم میں اس وقت نہ ہو سکے کہ ان اسم اعظم سے ہر سے اس کی روحانی طریقے اسم اعظم حاصل کرنے کے ساتھ ہیں۔ تمام طاقتور محضات اس کو اس کے عوام الناس کی خدمت کے لئے یہ آگے بڑھتے ہوئے ہیں۔

اسم اعظم کورس کر کے آپ کو ہر جگہ حاصل کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کو اسم اعظم کورس کی ہدایت و حراہت کی خدمت حاصل ہوگی اور دوسری طرف ہر وقت ہر وقت کاسٹل میں پڑھنا ہوگا اس کورس کی ہدایت آپ کو ہر جگہ ہر جگہ حاصل ہو سکتے ہیں۔

ایک اسم اعظم کورس، اسم اعظم کورس، اسم اعظم کورس

مزید تفصیلات کے لئے ملاقات کریں۔

ملاقات ہفتہ ہی اور ہفتہ روزہ گرمیوں میں اور ہفتہ کے علاوہ دستاویزی طریقے سے ملاقات ہر وقت

مکتبہ روحانیات 771/3 فیڈرل کونسل ایریا کراچی نمبر 19۔ (پاکستان) سراج الدولہ کالج قادری مسجد کے پیچھے نوزلی ایڈریس

خانان محمدی علیہ کے مجرب الواح نقوش آپ کے لئے

لوح حفاظت

اسمائے الہی یا حافظ یا تحفیظ یا رقیب یا ذکیل اور آیت الکرسی کی مجرب لوح آپ کو انشا اللہ تعالیٰ عظیم سحر و بادو و دشمنان و شیطان اور جلاوت انسانی سے حفاظت سے لے کر ایک مجرب لوح حفاظت جس کی تائید و واضح اور کمال کا امر ہوتی ہے۔

نقش مشکل کشتا

اسمائے الہی یا حی یا قیوم اور آیت الکرسی کا مجرب نقش مشکل کشتا کا عدد میں پندرہ بکت سناؤ مقدمہ میں کامیابی حصول تعلیم حصول حارست و غیرہ وغیرہ میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس نقش کو ایک مرتبہ ضرور استعمال کر کے دیکھیں آپ ہی نفس مشکل کشتا کے مزہ جو حاصل کرے۔

لوح شادی

سورہ طہ اور سورہ منزل کی لوح شادی چاند کی لوح جدی بصر یا جمعوت اور مشک و عزان کی دھونی میں سانس روک کر تیار کی جاتی ہے لوح شادی کی حامل خواتین و حضرات کو شادی تعالیٰ بیک رستے نصیب ہوں گے ایک بار ضرور لوح شادی کی جلا کر لی و لکھیں۔

لوح تسخیر

سورہ مرم کی پہلی آیت گھینےس کی ایک مجرب لوح، لوح تسخیر ہے انشا اللہ تعالیٰ لوح ہذا آکا حامل کی عزت و مردان میں م کی جس کی طرف ایک لفظ بکے اور طبع و کلام کا لوح کو اثر و سحر کا ایک بے مثال اور عجیب نقش، نقش محبت جو آکا حامل کو دے گا سحر کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے کہ ہر کس کو دل و دماغ میں ہی اس محبت کا تصور نہیں۔

نقش محبت

سورہ کوثر و سورہ بقرہ کا ایک بے مثال اور عجیب نقش، نقش محبت جو آکا حامل کو دے گا سحر کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے کہ ہر کس کو دل و دماغ میں ہی اس محبت کا تصور نہیں۔

کراچی سے باہر رہنے والے خواتین و حضرات نقوش کا ہدیہ اپنانا اس حود و اللہ و مقصد ضرور لکھیں اسی آئندہ نامی کو نام لکھی بھیجیں کراچی کے رہنے والے خواتین و حضرات نقوش و روح ذیل پتے پر بھیجیں اور دیکھ کر حلق کر سکتے ہیں۔

مکتبہ روحانیات ۶۶۱/۳ فیڈرل کینسل ایریا کراچی نمبر ۱۹ کریم آباد دل کپس سراج اللہ لکان کے قریب نزدیکی اینڈ ٹی فلینس



حاضرات

ظلمات برونج کے کشتے

ہا حاضرات تمام حاضرات کا سر رکھ ہے اس حاضرات کے نوکلت بیت طاقت ہے اس کے نام میں آپ کی عمر اور مدد کر دے ان حاضرات سے آپ ہر قسم کے حوالوں کے جواب لے سکتے ہیں مثلاً

- ہر قسم کے حوالوں اور اس کا علاج
- احوال نشا و نسوس
- احوال اس وصال و مستقبل
- احوال گمشدہ اور باہر ہوت
- کسرت و غمناکی کے ظلمات
- ہزار سالہ حاضرات میں ہزار سالہ کشتے

- ۵۰ روپے تک کی ہر قسم کے حوالوں اور اس کا علاج
- ۱۰ روپے تک کی ہر قسم کے حوالوں اور اس کا علاج
- ۱۰ روپے تک کی ہر قسم کے حوالوں اور اس کا علاج

مزید تفصیلات کے لیے حوالی لکھیں اور ۱۰ روپے کے ڈاک چیک کیساتھ خط لکھیں

علم نجوم کی تمام کتابوں سے کون انکار کر سکتا ہے صدیوں سے خواتین و حضرات اس علم سے بعض حاصل کر رہے ہیں ان میں سے کچھ اس علم سے ایک نئی روش حاصل کر رہے ہیں اور کچھ اس علم کے حامل خواتین و حضرات کو مدد و سروس کے بہتر ذریعہ کی گزرتے ہیں یہ علمات لڑکیوں کے تیار کر کے جانے میں قدرتی حاضرات کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ظلمات برونج کے بارے میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔

علم حمل	علم ثور	علم جوزا	علم سرطان
علم اسد	علم سنبلہ	علم میزان	علم عقرب
علم قوس	علم جدی	علم دلو	علم حوت

مختل تفصیلات کے لیے حوالی لکھیں اور ۵۰ روپے کے ڈاک چیک کیساتھ خط لکھیں

مکتبہ روحانیات

مکتبہ روحانیات

۶۶۱/۳ فیڈرل کینسل ایریا کراچی نمبر ۱۹

۶۶۱/۳ فیڈرل کینسل ایریا کراچی نمبر ۱۹



سورة "فاطر" کے خاتم جن "حکطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "فاطر" کے خاتم جن "حکطیش" کی تسخیر کے لیے سب سے پہلے دعا کا اتمام کریں
جہاں شور و غل نہ ہو۔ نوچندی تواریک رات یا جمعرات یا جمعہ سے قبل شروع کریں اور جب
آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
(سوئی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) کرے میں داخل ہو کر بان کی
خوب دھونی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ اور دو نفل
نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة
الفاتحہ ۲-۳ مرتبہ سورة اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حاضری جن کی نیت سے
ادا کریں اب آپ سورة "فاطر" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ
عمل حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "فاطر" کی تعداد ۱۳۱۵ رکعات یا آزاروں
میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "فاطر" کے خاتم جن "حکطیش" تشریف
لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلے ختم کریں تو سورة معہ عمل
حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَجِبْ يَا حَكَطِيشَ
حَافِرِ شَوَاحِفِ شَوْحَانَفْرِيَّ مَحَقِّ سُوْرَةِ فَاطِرٍ مَحَقِّ تَوْرِيْتِ مُوسٰى وَانْجِيلِ
عِيسٰى مَحَقِّ زَبُوْرِ دَاوُدَ وَقُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
الْمُدِّ وَالْوَاْسِعِ جَلَّ جَلَالُهُ مَحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سورة "يس" کے جن "حکطیش" کی تسخیر کا عمل

پڑ سکوں ماحول اور انگ کوہ میں بیٹھ لیں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی
بہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
کریں گے۔ غسل کر کے آرا سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
نوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ اور دو نفل برائے
ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ سورة
اخلاص ۲-۳ مرتبہ پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔
اب آپ سورة "يس" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۴ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة
کی تعداد "۲۴۱۴۱۰" رکعات یا آزاروں میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بملئہ جبرئیل
کے جن "حکطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو وہادات کے مطابق عہد و پیمان
کریں۔ بعد پڑ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَرْبٰنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْکَ يَا حَكَطِيشَ مَحَقِّ سُوْرَةِ
یَسٍ مَحَقِّ کَلِیْمَتِ عَصٰی مَحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَحَقِّ لَدَالِیْنِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ اُحْقُرُوْا مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ
وَالمَغَارِبِ اُحْقُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا حَكَطِيشَ
يَا حَكَطِيشَ يَا حَكَطِيشَ حَافِرِ شَوَاحِفِ



سورة "صافات" کے جن خادم "جمطیش" کو بلانے کا عمل

سورة "صافات" کے جن خادم "جمطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "جمطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ تکس توجہ دیکھوئی کے ساتھ سورة "صافات" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حافری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد "۳۱۵۴" تکوسات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حافری ہوگی۔ جب یہ حافر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سورة مع عملِ حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا جَمَطِیْشِ

حَافِرُ شَوْحِ حَافِرِ شَوْحِ حَافِرِ شَوْحِ سُوْرَةِ صَافَاَتِ

رَبِّیْ كَلْبِیْ عِصَّ رَبِّیْ جَمَطِیْشِ

رَبِّیْ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

رَبِّیْ یَا بَدُوۡۢحَ یَا بَدُوۡۢحَ یَا بَدُوۡۢحَ حَافِرِ شَوْ



سورة "ص" کے جن "وکطیش" کی حافری کا عمل

رات علیحدہ سات اور پگینہ مکہ میں پہلے سے تیار کر رکھنا چاہئے نماز پچاس اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ دراحمت قلب و سیرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حافری سورة "ص" کے جن "وکطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکملِ حصار بانہ کر سورة خدا کو پڑھیں جب سورة خدا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "ص" کی تعداد "۳۲۹۳۳۱" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "وکطیش" کی حافری ہوگی حافری ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سورة مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا وَاكطِیْشِ

حَافِرُ شَوْحِیْ سُوْرَةِ ص

رَبِّیْ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

رَبِّیْ تُوْرَاتِ دَانَجِیْلِیْ رَبِّیْ زَبُوْرِدِ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ

عملِ تسخیر :-

سورة زمر کے خادم جن و لطیش کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ سہی آپ کے حق وصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة زمر کے خادم جن و لطیش کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة طحا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۲ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة طحا کی تعداد ۶۵۸۵ تک پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہی خدا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے او کریں۔ تاثر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عِزَّتِ عَلَیْکُمْ یَا وَلَطِیْشِ اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا وَلَطِیْشِ

حَافِزِ شَوْجَنْ سُوْرَةِ زَمْرٍ بِحَقِّ الْمَدْرِ کَھِیَعَصَا

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ عَلَیْہِ السَّلَامِ بِحَقِّ یَا

بِدَوْدَ حَافِزِ شَوْجَنْ الْمَدْرِ یَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمل تسخیر:



سورة مؤمن کے خادم جن و لطیش کی دعوت کا عمل

سورة مؤمن کے خادم جن و لطیش کی تسخیر کے لیے لگ کر کے انتظام کریں جہاں شروع عمل نہ ہو۔ نوپندی تواریک ملت یا جماعت یا جموعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانفوں کی تمام چیزیں بند کریں اور جماع سے بھل پر ہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھیں دوستی سفید یا آسمانی شکرہ تسخیر بھی زیب تن کر سکتے ہیں، اگرے میں داخل ہو کر یو بان کی خوب دھوئی نہائیں پھر حصار باندھیں اب قبلہ ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو نفل رکعت میں بعد سورة طحا ۲-۳ مرتبہ سورة مؤمن پڑھیں اور دو نفل نماز حاجت حاضری جن کی نیت سے او کریں اب آپ سورة مؤمن کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة مؤمن کی تعداد ۳۹۸۵۲۲ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة مؤمن کے خادم جن و لطیش تشریف لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو ہمد و پیمان کریں۔ جب آپ پختہ کریں تو سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عَمَلِ حَافِزِ یَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَجِبْ یَا وَلَطِیْشِ

حَافِزِ شَوْجَنْ حَافِزِ شَوْجَنْ بِحَقِّ سُوْرَةِ مُؤْمِنٍ بِحَقِّ تَوْرِیْتِ مُوسٰی وَانْجِیْلِ

عِیْسٰی بِحَقِّ ذَبُورِ دَاؤُدَ وَقرآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صلی اللہ علیہ وسلم)

الْمَدْرِ الْوَاوِاسِعُ جَلَّ جَلَالُہُ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ عَلَیْہِ السَّلَامِ

سورة "حم سجده" کے جن "طلطیش" کی تسخیر کا عمل

پرسکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک پہلے پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "حم سجده" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد "۲۳۵۸۳۴" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بملذوٰۃ خدا کے جن "طلطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَدْرِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ يَا طَلِیْشُ بِحَقِّ سُوْرَةِ
 حَمِّ سَجْدَةٍ بِحَقِّ كَلْبِیَعَصْ بِحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا طَلِیْشُ
 يَا طَلِیْشُ يَا طَلِیْشُ حَاضِرٌ شَوْ

سورة "شوری" کے جن خادم "زکطیش" کو بلانے کا عمل

سورة "شوری" کے جن خادم "زکطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دو نفل نماز حاجت جن "زکطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مجلس توبہ دیکھ سوتی کے ساتھ سورة "شوری" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد "۱۳۳۹" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم تر خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلے سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے جرد میں رکھیں بلکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَقْسَمْتُ عَلَیْكَ يَا "زَكَطِیْشُ"
 حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ شُوْرٰی
 بِحَقِّ كَلْبِیَعَصْ بِحَقِّ حَمِّ سَجْدَةٍ
 بِحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ يَا بَدُوْۢحُ يَا بَدُوْۢحُ يَا بَدُوْۢحُ حَاضِرٌ شَوْ



سُورَةُ زُخْرَفٍ "کے جن" اکٹھیش کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ ساف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز تو بہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ "زُخْرَفٍ" کے جن "اکٹھیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حصار باندھ کر سُورَةُ "زُخْرَفٍ" پڑھیں جب سُورَةُ "زُخْرَفٍ" ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ "زُخْرَفٍ" کی تعداد ۲۹۰۶۹۷ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "اکٹھیش" کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر قلبی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سُورَةُ "زُخْرَفٍ" سے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ حُذَا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عِزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا اَکْطِیْشِ
حَاضِرِ شُرَیْحِی سُوْرَةُ زُخْرَفِ
بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ تُوْدَاتِ وَانْجِیْلِ بِحَقِّ زُبُوْرُو
قُرْآنِ مَجِیْدِ

المدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ

عملِ تسخیر :-



سُورَةُ دُخَانٍ "کے خادم جن" حصطیش کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سُورَةُ "دُخَانٍ" کے خادم جن "حصطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلنے والے جگہ میں جلتے نماز پڑھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سُورَةُ "دُخَانٍ" پڑھنا شروع کریں جب آپ سُورَةُ "دُخَانٍ" پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ "دُخَانٍ" کی تعداد ۲۹۰۶۹۷ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن حُذَا کی تسخیر ہوگی، بعد چلے سُورَةُ "دُخَانٍ" سے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ حُذَا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز تو بہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

عملِ تسخیر :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عِزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا حِصْطِیْشِ
حَاضِرِ شُرَیْحِی سُوْرَةُ دُخَانِ بِحَقِّ الْمُرْکُطِیْعِصِ
بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ یَا
بِدُوْدِ حَاضِرِ شُرَیْحِی الْمُدَدِ یَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة "جاشیہ" کے خادم جن "ہیطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "جاشیہ" کے خادم جن "ہیطیش" کی تسخیر کے لیے الگ کرے کا انتظام کریں
 جہاں شور وغل نہ ہو۔ نوچندی اتوار کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
 آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
 اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
 (سوتی سفید یا آسمانی نسلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) کرے میں داخل ہو کر یونان کی
 خوب دھوئی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل
 نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة
 الفاتحہ ۲-۳ مرتبہ سورة انعام پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حافری ہی کی نیت سے
 او کریں اب آپ سورة "جاشیہ" کو پڑھا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ
 عمل حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "جاشیہ" کی تعداد کو سات یا اسی
 میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "جاشیہ" کے خادم جن "ہیطیش" تشریح
 لائیں گے جب وہ حافریوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ پختہ ختم کریں تو سورة مع عمل
 حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اَجِبْ يٰ هَيْطِيشِ
 حافر شو حافر شو حافر شو بِحَقِّ سُوْرَةِ جَاشِيَةِ بِحَقِّ تُوْرِيْتِ مَوْسٰى وَ اَنْجِيْلِ
 عِيْسٰى بِحَقِّ زَبُوْرِ دَاوُدَ وَ قُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 الْمَدَدُ الْوَاسِعُ جَلَّ جَلَالُهُ بِحَقِّ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سورة "احقاف" کے جن "جعطیش" کی تسخیر کا عمل

پرسکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹل کریں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی
 ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
 کریں گے۔ غسل کر کے آرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
 یونان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے
 ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ سورة
 انعام ۳-۲ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر ہی کی نیت سے او کریں۔
 اب آپ سورة "احقاف" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۲ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ
 کی تعداد ۷۳، ۷۳، ۷۳، ۷۳ کو سات یا اسی میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة
 کے جن "جعطیش" کی حافری ہوگی۔ جب وہ حافریوں تو عہد و پیمان کے مطابق عہد و پیمان
 کریں۔ بعد پختہ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ عہد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اَجِبْ يٰ هَيْطِيشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
 اِحْقَافِ بِحَقِّ كَلِمَاتِ عَلِيٍّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ وَ اَنْجِيْلِ عِيْسٰى
 وَ اَقْرَبِ لَآلِ اَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ اَخْبَرُوْهُ مِنْ جَانِبِ الشَّارِقِ
 وَ الْمَغَارِبِ اَخْبَرُوْهُ مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَ الشَّمَالِ يٰ هَيْطِيشِ
 يٰ هَيْطِيشِ يٰ هَيْطِيشِ حَافِرُ شُو

سُورَةُ مُحَمَّدٍ "کے جن خادم" و "لطیث" کو بلانے کا عمل

سُورَةُ مُحَمَّدٍ "کے جن خادم" و "لطیث" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "و لطیث" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توبہ دیکھوئی کے ساتھ سُورَةُ مُحَمَّدٍ "کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حافری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ ہذا کی تعداد ۱۸۰۹۵۵ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن ہذا کی حافری ہوگی۔ جب یہ حافر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے ہمد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ مع عملِ حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا ذِی طَیْثِ

حَافِرُ شَوْحَانِ شَوْحَانِ حَافِرُ شَوْحَانِ سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

رَبِّحْ كَهَيْعَتِ رَبِّحْ كَهَيْعَتِ ۳

رَبِّحْ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

رَبِّحْ یَا بَدُوْحَ یَا بَدُوْحَ یَا بَدُوْحَ حَافِرُ شَوْ

عملِ حافری



سُورَةُ فَتْحٍ "کے جن زلیطیث" کی حافری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز پچائیں اور اتمامِ زیب تک کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، حاجتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حافری سُورَةُ فَتْحٍ "کے جن" زلیطیث کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حساباً ہذا سُورَةُ ہذا کو پڑھیں جب سُورَةُ ہذا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ فَتْحٍ کی تعداد ۱۸۸۸۲۸۰ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن زلیطیث کی حافری ہوگی حافری ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عملِ ہذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا ذِی طَیْثِ

حَافِرُ شَوْحَانِ سُوْرَةُ فَتْحٍ

رَبِّحْ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

رَبِّحْ تُوْرَاتِ دَانَجِیْلِ رَبِّحْ زَبُوْرِدِ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

الْعَدَدِ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ

عملِ تسخیر:-

سورة "حجرات" کے غلام جن "جیطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتہائی جذبات رکھنے پروری اور نفس و عہد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا واسیہ ہمیشہ بچائیں کہ آپ کے حق و حصول روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة "حجرات" کے غلام جن "جیطیش" کو تسبیح یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی ہڈ گاہ میں ہاتے ناز پر بیٹھ کر پہلے حصار ہانڈ میں پھر سورة طہ کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھیں تو ۲ مرتبہ عمل تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح آپ ساتھی گاہ میں دن میں سورة طہ کی تعداد "۱۰۷۸۹۲" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہی خدا کی تسبیح ہوگی بعد چار سورة مع عمل تسبیح کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نواز توبہ پھر دو رکعت نواز برائے ابھال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نواز برائے حاجت تسبیح جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا جیطیش اقسدت علیکم یا جیطیش
 حاضر شو بحقی سورة حجرات رَحْمَتِي الْمُرْتَبِعَاتِ
 بِحَقِّي سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّي يَا
 بَدُو حَافِرِ شَوْ الْمَدِيَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمل تسبیح



سورة "قی" کے غلام جن "زیطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "قی" کے غلام جن "زیطیش" کی تسبیح کے لیے عمل کرنے کا انتظام کریں یہاں شروع عمل مذہب۔ نوبہ کی اللہ کی حالت یا امر استراحت سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے ہالور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماع سے عمل پر جو کچھ کا عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کریں اور احرام اہل طہن رسول صلیہ وآلہ وسلم کی تسبیح بھی لپیٹ لیں تاکہ نیک نیتوں میں داخل ہو کر ان کی خوب وصول نگاہیں پھر حصار ہانڈ میں اب اللہ پھر پہلے دو رکعت نواز توبہ دو رکعت نواز برائے ابھال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نواز حاجت ماضی حاضری میں کاپیت سے لاکریں اب آپ سورة "قی" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة طہ پڑھیں تو ۲ مرتبہ عمل ماضی پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "قی" کی تعداد ۱۰۷۸۹۲ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "قی" کے غلام جن "زیطیش" تشریف لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چار سورة مع عمل ماضی پڑھیں تو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَحِبُّ يَا زَيْطِیْش
 حَافِرِ شَوْ حَافِرِ شَوْ حَافِرِ شَوْ بِحَقِّي سُورَةُ قَا بِحَقِّي تَوْرِيْتِ مُوسٰی وَ انْجِیْلِ
 عِیْسٰی بِحَقِّي زَبُورِ دَاوُدَ وَ قُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 الْعَدَدِ الْوَاسِعَةِ جَلِّ جَلَالِهِ بِحَقِّي سَلِيمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سورة "زاديات" کے جن "ہیطیش" کی تسخیر کا عمل

پرسکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹل کریں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "زاديات" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد "۱۱۹۵۲۴" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بلدیة خذا کے جن "ہیطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اُرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ يَا هَيْطِیْشَ بِمَحَقِّ سُوْرَةِ
 زَادِیَاتٍ بِمَحَقِّ كَلِیْعَصَ بِمَحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِمَحَقِّ لَدَالَةِ اَللّٰهِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا هَيْطِیْشَ
 يَا هَيْطِیْشَ يَا هَيْطِیْشَ حَافِضُوْشُو

سورة "طور" کے جن خادم "اسطیش" کو بلانے کا عمل

سورة "طور" کے جن خادم "اسطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "اسطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ محکم توبہ دیکھوئی کے ساتھ سورة "طور" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خذا کی تعداد "۳۱۳۸۳" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خذا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلے آپ سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ يَا اسْطِیْشَ
 حَافِضُوْشُو حَافِضُوْشُو حَافِضُوْشُو بِمَحَقِّ سُوْرَةِ
 بِمَحَقِّ كَلِیْعَصَ بِمَحَقِّ حَمَّاسِ
 بِمَحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِمَحَقِّ یَابِدُوْحٍ یَابِدُوْحٍ یَابِدُوْحٍ حَافِضُوْشُو

سورة النجم کے جن ایطیش کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز پکھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سورة النجم کے جن ایطیش کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکمل حصار باندھ کر سورة هذا کو پڑھیں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة النجم کی تعداد ۱۱۴۲۴۳۰ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن ایطیش کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل هذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا اِیُّطِیْشِ
 حَاضِرِ شَوْجِحِی سُوْرَةِ النَّجْمِ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ تُوْرَاتِ دَانِجِیْلِی بِحَقِّ زَبُوْرُو
 قُرْآنِ مَجِیْدِ
 اَلْمَدَدُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ

عمل تسخیر:-



سورة قمر کے خادم جن بیطیش کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة قمر کے غلام جن بیطیش کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جلتے نماز پکھائیں پہلے حصار باندھیں پھر سورة هذا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة هذا کی تعداد ۱۱۴۲۴۳۰ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن هذا کی تسخیر ہوگی۔ بعد چلے سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے جہد میں رکھیں تاکہ عمل هذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا اِیُّطِیْشِ اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا اِیُّطِیْشِ
 حَاضِرِ شَوْجِحِی سُوْرَةِ قَمَرِیِّ بِحَقِّ الْمُرْکُطِیْقِیْنَ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّیَا
 بِدَوْدَ حَاضِرِ شَوْجِحِی الْمَدَدِ یَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة "رحمن" کے قادم جن "ایطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "رحمن" کے قادم جن "ایطیش" کی تسبیح کے لیے الگ کرے کا انتظام کریں
جہاں شور وغل نہ ہو۔ نوچندی اتوار کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
دسوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں، کمرے میں داخل ہو کر یو بان کی
خوب دھونی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل
نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة
الفاتحہ ۳-۳ مرتبہ سورة اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حاضری جمی کی نیت سے
ادا کریں اب آپ سورة "رحمن" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ
عملِ حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "رحمن" کی تعداد ۱۷۷۳ کو سات یا گیارہ دن
میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "رحمن" کے قادم جن "ایطیش" تشریف
لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلے ختم کریں تو سورة معہ عمل
حاضری کی ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری : بسم اللہ الرحمن الرحیم اَجِبْ يَا اِطِيْشِ
حاضر شو حاضر شو حاضر شو بِحَقِّ سُوْرَةِ رَحْمٰنٍ بِحَقِّ تُوْرِيْتِ مُوسٰی وَ اَنْجِيْلِ
عِيْسٰی بِحَقِّ زَبُوْرَةِ اُوْدٍ وَ قُرْاٰنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
المدد الواسع جل جلاله بِحَقِّ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام

سورة "واقعه" کے جن "دیطیش" کی تسبیح کا عمل

پڑ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں یہ عمل کریں عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی
ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
یو بان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے
ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ سورة
اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسبیح جن کی نیت سے ادا کریں۔
اب آپ سورة "واقعه" ایک مرتبہ اور عمل تسبیح ۴ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة
کی تعداد ۱۰۲۹ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ملکہ سورة خدا
کے جن "دیطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو پہلی بات کے مطابق عہد و پیمان
کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسبیح کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسبیح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اُرِيْنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ يَا دِيْطِيْشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
وَاقِعَةٍ بِحَقِّ كَلِيْمَتَيْ عَصٰى بِحَقِّ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام
بِحَقِّ لَالِهِ الْاَلَاءِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ
وَ الْمَغْرِبِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَ الشَّمَالِ يَا دِيْطِيْشِ
يَا دِيْطِيْشِ يَا دِيْطِيْشِ حَافِضُوْهُ

سُورَةُ حَدِيدٍ "کے جن خادم" "ھیطیش" کو بلانے کا عمل

سُورَةُ حَدِيدٍ "کے جن خادم" "ھیطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "ھیطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توبہ دیکھوئی کے ساتھ سُورَةُ حَدِيدٍ "کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل ہنری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ ہذا کی تعداد ۶۸۳۳ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن ہذا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ مع عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا ھِیْطِیْشِ

حَافِرُ شَوْ حَافِرُ شَوْ حَافِرُ شَوْ بِحَقِّ سُورَةِ حَدِیْدِ

بِحَقِّ کُلِّ عَصٍّ بِحَقِّ حَمَمِیْنِ

بِحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ یَا بَدُو حَ یَا بَدُو حَ یَا بَدُو حَ حَافِرُ شَوْ

عمل حاضری



سُورَةُ مَجَادِلَةٍ "کے جن زلطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز چھائیں اور امام زینب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، حاجتِ قلب و سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ مَجَادِلَةٍ "کے جن" زلطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حصار بانہ کر سُورَةُ ہذا کو پڑھیں جب سُورَةُ ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ مَجَادِلَةٍ "کی تعداد ۴۴۶۴۴ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن" زلطیش" کی حاضری ہوگی پھر ہنری ہونے پر ہنری ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل ہذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عمل تسخیر:-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَزَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا زَلَطِیْشِ

حَافِرُ شَوْ بِحَقِّ سُورَةِ مَجَادِلَةٍ

بِحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تُوْدَاتٍ وَانجِیْلِ بِحَقِّ زَبُورِ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

الْمَدَدُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ

سورة "ممتحنہ" کے جن "طیطیش" کی تسخیر کا عمل

پڑ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں یہ عمل کریں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور حمام سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ کو چند ہی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے حرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے نوہان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توہمہ، دو نفل برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "ممتحنہ" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد "۱۰۱۳۵۰" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد سونچے خدا کے جن "طیطیش" کی ممانعت ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ " اِدْرِنِیْ اُنظُرْ اِلَیْكَ یَا طِیْطِیْشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
مَمْتَحِنٰہِ بِحَقِّ کَلِیْقَعَصَ بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بِنِ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَامِ
بِحَقِّ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْعَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشِّمَالِ یَا طِیْطِیْشِ
یَا طِیْطِیْشِ یَا طِیْطِیْشِ حَاضِرٌ شَوْ

سورة "حشر" کے خادم جن "حیطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات اکینہ پروردی اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة "حشر" کے خادم جن "حیطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة خدا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة خدا کی تعداد "۱۱۳۵۰" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن خدا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توہمہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا حیطیش اقسمت علیکم یا حیطیش

حاضر شوبخنی سورة حشر بحقی الم کھلیق عص

بحقی سلیمان بن داؤد علیہ السلام بحقی یا

بدو حاضر شوبخنی المدد یا اللہ الرحمن الرحیم

عمل تسخیر:

سُورَةُ صَفِّ "کے جن خادم" و "نطیش" کو بلانے کا عمل

سُورَةُ صَفِّ "کے جن خادم" و "نطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چنگاہ میں لوہان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "و نطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توجہ دیکھوئی کے ساتھ سُورَةُ صَفِّ "کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ خدا کی تعداد ۶۰-۵۹ کوسات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضریوں تین سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاجیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلے آپ سُورَةُ مع عملِ حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا وَنَطِیْش

حَافِرُ شَوْ حَافِرُ شَوْ حَافِرُ شَوْ بِحَقِّ سُورَةِ

بِحَقِّ كَلْبِیْ عَصِّ بِحَقِّ حَمَلِیْ عَسِّ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ یَا بَدُو ح یَا بَدُو ح یَا بَدُو ح حَافِرُ شَوْ

عملِ حاضری



سُورَةُ جَمْعِهِ "کے جن" و "سطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ صلیب جاتے نماز پچھائیں اور ۱۱۱ مرتبہ تکیہ کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ و حاجتِ قلب و سیرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ جَمْعِهِ "کے جن" و "سطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ سب مکمل حصار بانہ کر سُورَةُ خدا کو پڑھیں جب سُورَةُ خدا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ جَمْعِهِ "کی تعداد ۵۰-۴۱ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "و سطیش" کی حاضری ہوگی پھر یہ ہونے پر بڑی خوشی داری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سُورَةُ مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عملِ تسخیر :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا دَسَطِیْش

حَافِرُ شَوْ بِحَقِّ سُورَةِ جَمْعِهِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تَوْرٰتِ دَانَجِیْلِی بِحَقِّ زَبُورِی

قرآن مجید

الْمَدَدُ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ

سورة "منافقون" کے خادم جن "زنطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة "منافقون" کے خادم جن "زنطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلنے لگانے میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة "منافقون" کا پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۲ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "منافقون" کی تعداد "۵۳۳۵۹" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہی خدا کی تسخیر ہوگی۔ بعد چلنے لگانے کے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عملِ خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجتِ تسخیر جن کی نیت سے او کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا ذنطیش اقسمت علیکم یا ذنطیش

حاضر شو بخنی سورة منافقون یحیی المرکطی بھص

یحییٰ بن سلیمان بن داؤد علیہ السلام یحییٰ یا

بدو حاضر شو المدد یا اللہ الرحمن الرحیم

عملِ تسخیر:



سورة "تغابن" کے خادم جن "جبعطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "تغابن" کے خادم جن "جبعطیش" کی تسخیر کے لیے ملک کرے کا انتظام کریں جہاں شروع عمل نہ ہو۔ نوچندی قبول کی بات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک جگہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماعت سے عمل پر ہونے کی گواہی شروع کرنے سے پہلے منسل کریں اور احرام باندھیں دوستی سفید یا آسمانی شکر سفید ہی زیب تن کر سکتے ہیں اگر سے میں داخل ہو کر پانچ کی طوبہ وصولی لگائیں پھر حصار باندھیں اب تلبس ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ اور دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دو نفل رکعت میں بعد سورة "تغابن" ۲۰ مرتبہ سورة "تغابن" پڑھیں اور دو نفل نماز حاجتِ عافری جن کی نیت سے او کریں اب آپ سورة "تغابن" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ عملِ عافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "تغابن" کی تعداد "۱۱۱۱" سات یا بارہن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "تغابن" کے خادم جن "جبعطیش" تسخیر لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ ختم کریں تو سورة بعد عملِ عافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عملِ عافری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَحِبُّ بِاَجْعَطِیْش

حاضر شو حاضر شو حاضر شو یحییٰ سورة تغابن یحییٰ توریث موسیٰ و النجیل

عیسیٰ یحییٰ زبور داؤد و قرآن محمد الرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

المدد الواسع جل جلالہ یحییٰ سلیمان بن داؤد علیہ السلام



مکتبہ روحانیات کی خریدیہ پیشکش

مقصد	تعارف	قیمت	قیمت	قیمت
شادی کے لیے	اس کتاب میں ایک سو تیس روایات جمع ہیں جو شادی کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۱۱۰۰۰	۷۵۰۰	۲۱۰۰
روزگار کے لیے	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو روزگار کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۷۰۰۰	۳۵۰۰	۱۱۰۰
عزت کے لیے	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو عزت کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۷۵۰۰	۴۰۰۰	۷۵۰
مقدمہ میں کامیابی کے لیے	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو مقدمہ میں کامیابی کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۱۰۰۰	۷۰۰۰	۵۰۰
تعمیر و برکت کے لیے	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو تعمیر و برکت کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۷۰۰۰	۴۵۰۰	۳۵۰۰
روحانیات حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو روحانیات حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۱۱۰۰۰	۷۵۰۰	۲۱۰۰
تفسیر التلاوت	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو تفسیر التلاوت کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۷۰۰۰	۳۵۰۰	۱۱۰۰
عزیزانہ کے لیے	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو عزیزانہ کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۱۵۰۰۰	۱۰۰۰۰	۵۰۰۰
ہر مقصد کے لیے	اس کتاب میں ۱۰۰ روایات جمع ہیں جو ہر مقصد کے لیے پڑھنے کے لیے بہت مفید ہیں۔	۱۰۰۰۰	۷۰۰۰	۵۰۰۰

جو کہ بھائی مذکورہ بالا کسی بھی مقصد کے لیے اور ان مکتبہ روحانیات کراچی سے نقش تیار کروانا چاہتے ہیں۔
 وہ اپنا نام، پتہ، محلہ، مقصد اور مطلوبہ پتہ پر نام سوائی محمد نام محمدی ۴۷۱/۳ فیڈرل کپٹل ریمیا کراچی ۷۴
 کے پتے پر مئی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعے ایک ہفتہ بعد آپ کو نقش معہ ہدایات و تشکر کردی جائیں گی۔ شکریہ
 از مکتبہ روحانیات کراچی۔

سورۃ طلاق کے خاتم جن "طفطیش" کی دعوت کا عمل

سورۃ طلاق کے خاتم جن "طفطیش" کی دعوت کے لیے ایک کمرے کا انتظام کریں
 جہاں شروع نہ ہو۔ نوچندی تواریک رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
 آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
 اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
 (سوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) اگر سے میں داخل ہو کر وہ بان کی
 خوب دھوئی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل
 نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دو نفل رکعت میں بعد سورۃ
 الفاتحہ ۲-۳ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حاضری جن کی نیت سے
 او کریں اب آپ سورۃ طلاق کو پڑھنا شروع کریں جب سورۃ ختم ہو تو ۲ مرتبہ
 عمل حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورۃ طلاق کی تعداد ۱۰۰۰۰ کو سات یا گیارہوں
 میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورۃ طلاق کے خاتم جن "طفطیش" تشریف
 لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ پختہ ختم کریں تو سورۃ معہ عمل
 حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری: بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب یا طفطیش
 حاضر شو حاضر شو حاضر شو بھئی سورۃ طلاق بھئی توریث موسیٰ وانجیل
 عیسیٰ بھئی زبور داؤد وقرآن محمد الرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 المدد الواسع جل جلالہ بھئی سلیمان بن داؤد علیہ السلام

پراسرار علوم کی تعلیم حاصل کریں

نیم انسٹیٹیوٹ آف روحانی علوم کے
 زیر اہتمام درج ذیل کورسز کا بذریعہ ڈاک
 سکھانے کا انتظام ہے۔ آپ گھر بیٹھے ان
 علوم کی تعلیم حاصل کر کے ماہانہ ہزاروں روپے کما سکتے ہیں۔
 معلومات 20 روپے کے ڈاک کے ٹکٹ بھیج کر معلوم کریں۔

- علم الأعداد — علم الحروف — علم النقوش — علم العمليات
 علم الجواهرات — علم القیافہ — علم الساعات — علم النظریات
 علم الجفر — علم البروج — علم النواکب — علم النجوم

پرنسپل آف نیم انسٹیٹیوٹ آف روحانی علوم

۸/۷۱ ایف۔ فیٹرل کیپیٹل ایریا — کراچی ۱۹

پراسرار علوم کی تعلیم حاصل کریں

علم الأعداد	ہندسہ ۹۲۱ کا تعارف و قواعد اور بہت کچھ عام فہم کورس
علم الحروف	حروف تہجی کا تعارف و اہمیت و عملیات آسان کورس
علم النقوش	نقوش کی قسمیں، نکات اور استعمال میں لانے کے متعلق کورس
علم العمليات	عملیات کے بنیادی اصول و قواعد کا بے نظیر کورس
علم الجواهرات	پتھر نامہ قدیم سے انسان کی ضرورت سے پہلے متعلق کورس
علم القیافہ	دوسروں کی شخصیت کا مطالعہ کے سلسلہ میں آسان کورس
علم الساعات	ساعت (دقت) کا تعارف و اہمیت اور عملیات کا عام فہم کورس
علم النظریات	نظریات کے عملیات بہت پر اثر ہوتے ہیں نظریات کے متعلق کورس
علم الجفر	علم الجفر کی قسمیں ابتدائی قواعد اور بہت کچھ ایک بے نظیر کورس
علم البروج	بروج کا تعارف، قسمیں اور تعلقات پر آسان کورس
علم النواکب	نواکب (ستارے) کا تعارف، قسمیں اور تعلقات پر عام فہم کورس
علم النجوم	علم النجوم کا تعارف ابتدائی قواعد اور بہت کچھ ایک بے نظیر کورس

پرنسپل آف نیم انسٹیٹیوٹ آف روحانی علوم

۸/۷۱ ایف۔ فیٹرل کیپیٹل ایریا کراچی نمبر ۱۹

صوفی محمد ندیم محمدی کی چار بے نظیر کتب آپ کے لئے

علم الجفر کے کرشمے علم الاعداء کے کرشمے

علم النجوم کے کرشمے علم الخواب کے کرشمے

شمع یک ایجنسی اولپک پلازہ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

صوفی محمد ندیم محمدی کی چار بہترین کتب آپ کے لئے

تحفہ قرب الہی مرنے سے پہلے مر جاؤ

حکایت سعدی حکایت روحی

شمع یک ایجنسی اولپک پلازہ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

عملیات پر صوفی محمد ندیم محمدی کی بے نظیر کتب آپ کے لئے

عملیات سلیمانی میاض سلیمانی

تعویذات سلیمانی پُر اثر عملیات و تعویذات

تحفہ عملیات و تعویذات روحانی عملیات و تعویذات

شمع یک ایجنسی اولپک پلازہ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

قرآن مجید کے عملیات پر صوفی محمد ندیم محمدی کی چار بہترین کتب

کلام پاک کے کرشمے کلام پاک کے معجزے

عملیات کلام پاک کمالات کلام پاک

شمع یک ایجنسی اولپک پلازہ الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

سُورَةُ "تَحْرِيم" کے جن "زمطیش" کی تسخیر کا عمل

پرسکون ماحول اور اللہ کریم میں یہ عمل کریں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورۃ الفاتحہ سورۃ اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورۃ "تحوییر" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورۃ کی تعداد ۴۹۲۳۲ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد شفا خدا کے جن "زمطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورۃ معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ یَا زَمْطِیْشُ بِحَقِّ سُوْرَةِ
 بِحَقِّ کَلْبِیْعَصِّ بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَالِہِ اَللّٰہِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰہِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ یَا زَمْطِیْشُ
 یَا زَمْطِیْشُ یَا زَمْطِیْشُ حَاضِرْ شَوْ

سُورَةُ "مُلْك" کے جن خادم "طیطیش" کو بلانے کا عمل

سُورَةُ "مُلْك" کے جن خادم "طیطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "طیطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توبہ دیکھوئی کے ساتھ سورۃ "مُلْك" کو پڑھنا شروع کریں جب سورۃ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورۃ خدا کی تعداد ۱۹۵۴۳ کی سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم تر خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر باحیث عمل کرتے رہیں۔ بعد چلے آپ سورۃ معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے حیرد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا طِیْطِیْشُ
 حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ مُلْكِ
 بِحَقِّ کَلْبِیْعَصِّ بِحَقِّ حَمَّاسِ
 بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ یَا بَدُوْحُ یَا بَدُوْحُ یَا بَدُوْحُ حَاضِرْ شَوْ

سورة القلم کے جن "طصطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز پچھائیں اور
 اہرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب
 تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت
 نماز حاجت برائے "سورة القلم" کے جن "طصطیش" کی نیت سے
 ادا کریں۔ اب مکمل حصار باندھ کر سورة خدا کو پڑھیں جب سورة خدا ختم ہو تو ۳ مرتبہ
 عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "القلم" کی تعداد
 ۸۰۸ - ۹۳ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "طصطیش" کی حاضری ہوگی جتنی
 ہونے پر جنی ہوشیاری کے ساتھ مہر و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سورة معقل تسخیر کو
 ۱۸ مرتبہ اپنے دہ میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِطِصْطِیْشِ
 حَاضِرِ شَوْجِحِیْ سُوْرَةِ الْقَلَمِ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ تُوْرَاتِ دَانِیْئِلَ بِحَقِّ زَبُوْرٍ

قرآن مجید
 المدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ



سورة حاقہ کے خادم جن "طصطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پرہی اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان
 سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔
 سورة "حاقہ" کے خادم جن "طصطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی
 چلنگاہ میں جلتے نماز پڑھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة خدا کو پڑھتے شروع کریں
 جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ہر مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن
 میں سورة خدا کی تعداد ۱۰۹ - ۱۰۰ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن خدا کی تسخیر ہوگی بعد
 چلے سورة معقل تسخیر کو ۱۸ مرتبہ اپنے دہ میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت
 آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کھینچنے کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت
 نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر
 دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر چھ کی نیت سے ادا کریں۔ تاخیر آپ خود کا عمل
 فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ بِطِصْطِیْشِ اِقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِاِ
 طَلْرِ شَرْجِحِیْ سُوْرَةِ حَاقِہِ بِحَقِّ الْعَرَاکِطِیْقِیْنَ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّیْ
 بِدَدِ ۳۵۳ اَمْرٍ شَوْجِحِیْ اَللّٰهُمَّ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

عمل تسخیر:

سُورَةُ "مَعَارِجِ" كے خادم جن "وعطيش" کی دعوت کا عمل

سُورَةُ "مَعَارِجِ" کے غلام جن "وعطيش" کی تشریح کے لیے الگ کرے کا انتظام کریں
 جہاں شور و غل نہ ہو۔ نوچندی اتوار کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
 آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک جگہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
 اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
 دسوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں (مگرے میں داخل ہو کر یو بان کی
 خوب دھونی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل
 نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سُورَةُ
 الفاتحہ ۲-۳ مرتبہ سُورَةُ اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجتِ حاضری جن کی نیت سے
 ادا کریں اب آپ سُورَةُ "مَعَارِجِ" کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ ختم ہو تو ۲ مرتبہ
 عملِ حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ "مَعَارِجِ" کی تعداد ۱۰۰ کو سات یا گیارہوں
 میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سُورَةُ "مَعَارِجِ" کے خادم جن "وعطيش" تشریح
 لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ جگہ ختم کریں تو سُورَةُ معہ عمل
 حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عملِ حاضری : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اَجِبْ يَا وَعْطِیْشِ
 حَافِرُ شَوْحَانِ شَوْحَانِ شَوْحَانِ بِحَقِّ سُورَةُ مَعَارِجِ بِحَقِّ تَوْرِیْتِ مَوْسٰی وَ اَنْجِیْلِ
 عِیْسٰی بِحَقِّ زَبُورِ دَاوُدَ وَ قُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللّٰهِ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 الْعَدَدِ الْحَاسِعِ جَلَّ جَلَالُهُ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

سُورَةُ "نُوحِ" کے جن "جوعطيش" کی تشریح کا عمل

پرسکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک پہلے جانور کی
 ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
 کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
 لوہان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے
 ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سُورَةُ الفاتحہ سُورَةُ
 اخلاص ۲-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجتِ حاضری جن کی نیت سے ادا کریں۔
 اب آپ سُورَةُ "نُوحِ" ایک مرتبہ پڑھیں اور عملِ تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سُورَةُ
 کی تعداد "۷۳۲۱۳" کو سات یا آٹھ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد سُورَةُ نُوحِ
 کے جن "جوعطيش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو عہد و پیمان کے مطابق عہد و پیمان
 کریں۔ بعد چلے سُورَةُ معہ عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عملِ تسخیر :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ يَا جَعْطِیْشِ بِحَقِّ سُورَةُ
 نُوحِ بِحَقِّ كَلِمَاتِ عِصْمِ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ
 وَ الْمَغْرِبِ اَحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَ الشَّمَالِ يَا جَعْطِیْشِ
 يَا جَعْطِیْشِ يَا جَعْطِیْشِ حَافِرُ شَوْ

سُورَةُ "جن" کے جن خادم "جیطیش" کو بلانے کا عمل

سُورَةُ "جن" کے جن خادم "جیطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "جیطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ تکس توبہ دیکھوئی کے ساتھ سُورَةُ "جن" کو پڑھنا شروع کریں جب سُورَةُ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سُورَةُ خدا کی تعداد "۱۰۶۳۳" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضری ہو تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ مع عملِ حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا جِیطِیْشِ

حَاضِرٌ شَرِیْفٌ حَاضِرٌ شَرِیْفٌ بِحَقِّ سُوْرَةِ جِنِّ

بِحَقِّ كَلْبِیْضِ بِحَقِّ حَمَلِیْشِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ یَا بَدُوْحٍ یَا بَدُوْحٍ یَا بَدُوْحٍ حَاضِرٌ شَرِیْفٌ



سُورَةُ "مزمل" کے جن "وسطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ سات اور پاکیزہ مکہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور اتمامِ زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سیرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ "مزمل" کے جن "وسطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکمیلِ حصارِ بانہ کر سُورَةُ خدا کو پڑھیں جب سُورَةُ خدا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ "مزمل" کی تعداد "۶۸۶۶۶" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "وسطیش" کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر بڑی پوشیدگی کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سُورَةُ مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عملِ تسخیر :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَزَمْتُ عَلَیْكُمْ یَا وَسْطِیْشِ

حَاضِرٌ شَرِیْفٌ بِحَقِّ سُوْرَةِ مَزْمَلِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تُوْرَاتِ وَانْجِیْلِ بِحَقِّ زَبُوْرٍ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاللّٰهِ بِاللّٰهِ

سورة مدثر کے خادم جن وسطیش کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات کمینہ پروردی اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصول روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة مدثر کے خادم جن وسطیش کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة مدثر کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة مدثر کی تعداد ۹۳۵۵ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن مدثر کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل مدثر کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاخیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا وسطیش اقسمت علیکم یا وسطیش

حاضر شر بختی سورة مدثر بختی الم کھلیعص

بختی سلیمان بن داؤد علیہ السلام بختی یا

بدو حاضر شو المدد یا اللہ الرحمن الرحیم

عمل تسخیر:

سورة قیامہ کے خادم جن حنطیش کی دعوت کا عمل

سورة قیامہ کے خادم جن حنطیش کی تسخیر کے لیے طے کر کے اپنے جہاں نمود مل نہ ہو۔ نوبہ کی نوبہ کی حالت یا جموع یا جمعہ سے قبل شروع کریں بل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک جگہ بیٹھے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور ہمارے عمل پر عمل کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھیں دوستی سفید یا آسمانی شکر سفید بھی زیب تن کیجئے ہیں کرے میں داخل ہو کر لوہان کی ٹوبہ وصولی لگائیں پھر حصار باندھیں اب قبلہ ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ اور نفل نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو نفل رکعت میں بعد سورة الفاتحہ ۲۰۲ مرتبہ سورة غافر پڑھیں اور دو نفل نماز حاجت حافری جن کی نیت سے ادا کریں اب سورة قیامہ کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲۰ مرتبہ عمل حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة قیامہ کی تعداد چھ سو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة قیامہ کے خادم جن حنطیش تشریح لائیں گے جب وہ حافریوں تو ہمدرد ہو جائیں گی۔ جب آپ جگہ ختم کریں تو سورة معہ عمل حافری کو ۲۰ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَحِبَّ یا حنطیش

حافر شو حافر شو حافر شو بختی سورة قیامہ بختی توریت موسیٰ وانجیل

عیسیٰ بختی زبور داؤد و قرآن محمد الرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

المدد الواسع جل جلالہ بختی سلیمان بن داؤد علیہ السلام

سورة دھسر کے جن اعطیش کی تسخیر کا عمل

پڑھ کر کون ناموں اور اللہ کو میں پھیل گئیں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ کو چند ہی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے حرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوہان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توہمہ، دو نفل برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "دھسر" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد "۷۷۵۸۸" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بملک سورة خدا کے جن "اعطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَدْرِئِيْ اَنْظُرُ اِلَيْكَ يَا اَعْطِیْشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
 دھسر بِحَقِّ كَلْبِیْنَ عَصَّ بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا اَعْطِیْشِ
 يَا اَعْطِیْشِ، يَا اَعْطِیْشِ حَاضِرٌ شَوْ

سورة مسلمات کے جن غلام اعطیش کو بولنے کا عمل

سورة مسلمات کے جن غلام اعطیش کو اپنے پاس بولنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ہلکے گاہ میں لوہان کی دھوئی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "اعطیش" کو اپنے پاس بولنے کی نیت سے ادا کریں اب آپ تسخیر توبہ دیکھوئی کے ساتھ سورة مسلمات کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل ہاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد "۷۶۳۳" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلے آپ سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَقْسَمْتُ عَلَیْكَ يَا اَعْطِیْشِ
 حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ مَسَلٰتِ
 بِحَقِّ كَلْبِیْنَ عَصَّ بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا اَعْطِیْشِ
 يَا اَعْطِیْشِ، يَا اَعْطِیْشِ حَاضِرٌ شَوْ



سُورَةُ النَّبَاِ كے جن "انطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینه حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سُورَةُ النَّبَاِ كے جن "انطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حصار باندھ کر سُورَةُ حَذَا کو پڑھیں جب سُورَةُ حَذَا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ النَّبَاِ كے تعداد ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سُورَةُ حَذَا کے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عملِ حَذَا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجتِ تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاخیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا انطیش

حاضرو شو یحییٰ سُورَةُ النَّبَاِ

یحییٰ سلیمان بن داؤد علیہ السلام

یحییٰ تورات و انجیل یحییٰ زبور

قرآن مجید

المدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ

عملِ تسخیر :-

سُورَةُ النَّبَاِ كے خادم جن "مصطفین" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور نفخ و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سُورَةُ النَّبَاِ كے خادم جن "مصطفین" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سُورَةُ حَذَا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سُورَةُ حَذَا پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سُورَةُ حَذَا کی تعداد ۱۱ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جنی حَذَا کی تسخیر ہوگی۔ بعد چلے سُورَةُ حَذَا کے عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عملِ حَذَا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجتِ تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاخیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا مصطفین اقسمت علیکم یا مصطفین

حاضرو شو یحییٰ سُورَةُ النَّبَاِ كے جن "مصطفین"

یحییٰ سلیمان بن داؤد علیہ السلام یحییٰ یا

مدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ

عملِ تسخیر :-



سُورَةُ عَبَسَ "عَبَسَ" كَيْ فَادَمَ جَنِّ "طَنْطِيشِ" كَيْ تَسْبِيحِ "دَعْوَتِ كَامِلِ"

سُورَةُ "عَبَسَ" كَيْ فَادَمَ جَنِّ "طَنْطِيشِ" كَيْ تَسْبِيحِ "دَعْوَتِ كَامِلِ" كَيْ تَسْبِيحِ كَيْ لِيَةِ الْكَلِمَةِ كَيْ انْتِظَامِ كَرِيهِ
 جِهَانِ شُرُوعِ نَهْ بِهْ - نَوْجِنْدِي اَتَوَارِ كِي رَاتِ يَاجْمَعَاتِ يَاجْمَعَهْ سَعِ عَمَلِ شُرُوعِ كَرِيهِ عَمَلِ جَبْ
 اَبِ شُرُوعِ كَرْنِهْ كَا ارَادَهْ كَرِيهِ تَوَا اَسْ دَلْنِ سَعِ اَيْكِ مَهْفَتِهْ پِهَلِهْ جَانُو كِي تَمَامِ تَجْرِيهِ بَنْدِ كَرِيهِ
 اَوْرِ جَمَاعِ سَعِ مَكْمَلِ پَرِ مَبْرِي كَيْ كَا - عَمَلِ شُرُوعِ كَرْنِهْ سَعِ پِهَلِهْ فَعْلِ كَرِيهِ اَوْرِ اَحْرَامِ بَانْدِ لَسِ
 دَسُو تِي سَفِيْدِ يَآ اَسْمَانِي شَلُو اَرَقِيْمِيْ سَبِيْ نَبِيْ تِي كَر سَكْتِهْ هِيْ كَر سَعِ مِيْ دَاخِلِ بُو كَرُو بَانِ كِي
 خُوْبِ دَحُو تِي لِكَا يَسِ پِيْرِ حَصَارِ بَانْدِ لَسِ اَبْ قَبْلِهْ رُو بُو كَرِ پِهَلِهْ دُو نَفْلِ نَمَازِ تَوْبِهْ دُو نَفْلِ
 نَمَازِ بَرَا يَسِ اِيصَالِ ثَوَابِ حَضُوْرِ كَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ (دُو نَفْلِ رَكْعَتِ مِيْ بَعْدِ سُورَةِ
 الْفَاتِحَةِ ۳-۲ مَرْتَبِهْ سُورَةِ اَخْلَاصِ پُرْ حِيْ) اَوْرِ دُو نَفْلِ نَمَازِ حَاجَتِ حَافِزِيْ حِيْ كِي نِيَّتِ سَعِ
 اَو كَرِيهِ اَبِ اَبِ سُورَةِ "عَبَسَ" كُو پُرْ حَافِظِ شُرُوعِ كَرِيهِ جَبْ سُورَةُ خَتْمِ بُو تُو ۳ مَرْتَبِهْ
 عَمَلِ حَافِزِيْ پُرْ حِيْ - اَسِيْ تَرْكِيْبِ كَيْ نَمَازِ سُورَةِ "عَبَسَ" كِي تَعْدَادِ ۳۱ كُو سَاتِ يَآ اِيَارِ مِيْ
 مِيْ پُوْرَا كَرِيهِ - اِنْتِشَاءُ اللهُ تَعَالَى عَظِيْمِ سُورَةِ "عَبَسَ" كَيْ فَادَمَ جَنِّ "طَنْطِيشِ" تَشْرِيْفِ
 لَآ يَسِيْ كَيْ جَبْ دَهْ حَافِزِ مِيْ تُو عَهْدِ دُو پِيْمَانِ كَرِيهِ - جَبْ اَبِ مَلِّ خَتْمِ كَرِيهِ تُو سُورَةُ مَعْدِ كَامِلِ
 حَافِزِيْ كُو ۱۱ مَرْتَبِهْ اَبِنِهْ وَرْدِ مِيْ رَكْعَتِ بَا كَرِ عَمَلِ قَابِلِ مِيْ رَهِيْ -

عَمَلِ حَافِزِيْ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ اَجِبْ يَآ طَنْطِيشِ
 حَافِزِ شُوْرَا نَرْشُوْمِ نَرْشُوْمِ حَقِيْقِيْ سُورَةُ عَبَسَ بِحَقِّ تُوْرِيْتِ مَوْسَى وَ اَنْجِيْلِ
 عِيْسَى بِحَقِّ زَبُوْرِ دَاوُدِ وَ قُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سُورَةُ "تَكْوِيْرِ" كَيْ جَنِّ "مَطِيْشِ" كَيْ تَسْبِيْحِ كَامِلِ

پُرْ سَكُوْنِ نَاحُوْلِ اَوْرِ اَلِكِ كَرِهِيْ مِيْ دِيْعَلِ كَرِيهِ عَمَلِ شُرُوعِ كَرْنِهْ سَعِ اَيْكِ مَهْفَتِهْ پِهَلِهْ جَانُو كِي
 مَرْتَبِهْ بَنْدِ كَرِيْ اَوْرِ جَمَاعِ سَعِ مَكْمَلِ پَرِ مَبْرِي كَرِيهِ - يَسِ عَمَلِ اَبِ نَوْجِنْدِي جَمْعَاتِ يَاجْمَعَهْ سَعِ شُرُوعِ
 كَرِيْ كَيْ فَعْلِ كَرِ كَيْ اَحْرَامِ سَفِيْدِ كَرِ سَعِ كَا پِهْنِ مِيْ پِيْرِ كَرِهِيْ مِيْ دَاخِلِ بُو جَانِيْ - پِهَلِهْ
 لُو بَانِ مِهْ كَا يَسِ پِيْرِ حَصَارِ بَانْدِ كَرِ قَبْلِهْ رُو كَرِ سَعِ بُو كَرِ دُو نَفْلِ نَمَازِ تَوْبِهْ، دُو نَفْلِ بَرَا يَسِ
 اِيصَالِ ثَوَابِ حَضُوْرِ كَرِيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ (دُو نَفْلِ رَكْعَتِ مِيْ بَعْدِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ سُورَةُ
 اَخْلَاصِ ۳-۲ مَرْتَبِهْ پُرْ حِيْ) اَوْرِ پِيْرِ دُو نَفْلِ نَمَازِ حَاجَتِ تَسْبِيْحِ جَنِّ كِي نِيَّتِ سَعِ اَدَا كَرِيْ -
 اَبِ اَبِ سُورَةِ "تَكْوِيْرِ" اَيْكِ مَرْتَبِهْ اَوْرِ عَمَلِ تَسْبِيْحِ ۳ مَرْتَبِهْ پُرْ حِيْ - اَسِيْ تَرْكِيْبِ سَعِ سُورَةِ
 كِي تَعْدَادِ ۳۱ كُو سَاتِ يَآ اِيَارِ دَلْنِ مِيْ پُوْرَا كَرِيْ - اِنْتِشَاءُ اللهُ تَعَالَى بَلَدِ سُورَةِ حَقْدَا
 كَيْ جَنِّ "مَطِيْشِ" كَيْ حَافِزِيْ هُو كِي - جَبْ دَهْ حَافِزِ مِيْ تُو پِهَلَا يَاتِ كَيْ مَطَالِقِ عَهْدِ دُو پِيْمَانِ
 كَرِيْ - بَعْدِ مَلِّ سُورَةِ مَعْدِ عَمَلِ تَسْبِيْحِ كُو ۱۱ مَرْتَبِهْ وَرْدِ مِيْ رَكْعَتِ -

عَمَلِ تَسْبِيْحِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَرِنِيْ اَنْظُرْ اِلَيْكَ يَا مَطِيْشِ بِحَقِّ سُورَةِ
 تَسْكُوْرِيْ بِحَقِّ كَلْبِيْعَقَصِ بِحَقِّ سَلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَآ اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَآ مَطِيْشِ
 يَآ مَطِيْشِ يَآ مَطِيْشِ حَافِزِ شُوْرَا

سورة انفطار کے جن خادم و کطیش کو بلانے کا عمل

سورة انفطار کے جن خادم و کطیش کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن و کطیش کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ غسل توبہ و یکسوئی کے ساتھ سورة انفطار کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل حافری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة ہذا کی تعداد ۲۶۶۹۳ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن ہذا کی حافری ہوگی۔ جب یہ حافر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سورة مع عمل حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اقسمت علیکم یا وکطیش
حافر شو حافر شو حافر شو بحق سورة انفطار
بِحَقِّ کَلْبِ عِصْ بِحَقِّ حَمَةِ سَقِ
بِحَقِّ سلیمان بن داؤد علیہ السلام
بِحَقِّ یا بدوح یا بدوح یا بدوح حافر شو



سورة مطففین کے جن انطیش کی حافری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جاکے نماز پچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب تاجدار مدینہ ماجست قلب و سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حافری سورة مطففین کے جن انطیش کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکمل حصار بانڈھ کر سورة ہذا کو پڑھیں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة مطففین کی تعداد ۵۷۱۳۷ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن انطیش کی حافری ہوگی جعفری ہونے پر جبری ہو شہادی کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل حفا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عمل تسخیر :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عزم مت علیکم یا انطیش
حافو شو بحق سورة مطففین
بِحَقِّ سلیمان بن داؤد علیہ السلام
بِحَقِّ تورات وانجیل بحق زبور
قرآن مجید

سورة "الشقاق" کے غلام بن دلطیش کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات اکید پروردگار کی اور اللہ سے اپنے قلب و ذہن کو ہالکا کرے۔ ان صاحبانِ دامنِ جلیلہ پر ایمان لائے کہ یہی آپ کے حق وصول مدعا نیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة "الشقاق" کے غلام بن دلطیش کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی ہڈ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة خدا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھیں تو ۲ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة خدا کی تعداد "۳۲۹۳۸" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہی خدا کی تسخیر ہوگی بعد چار سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی مدعا نیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے لو کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا دلطیش اقسمت علیکم یا دلطیش

خانہ شریعت سورة الشقاق بِحَقِّ الْعَرَاظِطِيعَاتِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ يَاسَعِ

بِدُوحِ خَانَةِ شُرَّةِ الْعَدُوِّ يَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمل تسخیر:

سورة "بروج" کے غلام بن جملطیش کی دعوت کا عمل

سورة "بروج" کے غلام بن جملطیش کی دعوت کا عمل یہ ہے کہ اس کے لیے ایک سال تک اس کے پاس ہر روز نماز پڑھے۔ نوبہ کی شکل حالت یا امرات یا امرات سے اس طرح شروع کریں کہ جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے نماز کی تمام چیزیں بند کر دیں اور ہمارے عمل پر بند کرینگے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور اسلام پانچوں دوسری سیدیا یا آسمانی شلوخ میں بھی نوبہ کی شکل میں رکھیں۔ اگر سے میں داخل ہو کر وہاں کی نوبہ وصولی لگائیں پھر حصار باندھیں اب قبلہ کو پھر پہلے دو نفل نماز توبہ دو نفل نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نفل رکعت میں بعد سورة الفاتحہ ۲-۳ مرتبہ سورة غلام بن جملطیش پڑھیں اور دو نفل نماز حاجت خانہ فری جن کی نیت سے لو کریں اب آپ سورة "بروج" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ عمل خانہ فری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "بروج" کا تعداد ۱۰۰ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "بروج" کے غلام بن جملطیش کو تسخیر فرمائیں گے جب وہ خانہ فریوں تو عہدہ پہنچا کرے۔ جب آپ پڑھنا ختم کریں تو سورة مع عمل خانہ فری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل خانہ فری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اَجِبْ يَا جَلِطِیْش

خانہ شریعت خانہ شریعت سورة بروج بِحَقِّ تَوْرِيَةِ مُوسَى وَ انجیلِ

عیسیٰ بِحَقِّ زَبُورِ دَاوُدَ وَ قرآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

الْعَدُوِّ يَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سُورَةُ طَارِقِ "کے جن" زبیطیش کی تسخیر کا عمل

پڑ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں یہ عمل کریں۔ عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ فوجی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غبار کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوہان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں رکعت میں بعد سورۃ الفاتحہ سورۃ اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورۃ "طارق" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۳ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورۃ کی تعداد "۱۷۷۶۵" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بملہ شہۃ خدا کے جن "زبیطیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلہ سورۃ معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَدْرِیْ اَنْظُرُ اِلَیْكَ یَا زَبِطِیْشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
بِحَقِّ کَلْبِیْعَصِّ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ یَا زَبِطِیْشِ
یَا زَبِطِیْشِ یَا زَبِطِیْشِ حَاضِرٌ شَوْ

سُورَةُ الْاَعْلٰی "کے جن خادم" بکطیش کو بلانے کا عمل

سُورَةُ الْاَعْلٰی "کے جن خادم" بکطیش کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوہان کی دھوئی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "بکطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ تکس توبہ و یکسوئی کے ساتھ سورۃ "الاعلیٰ" کو پڑھنا شروع کریں جب سورۃ پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورۃ خدا کی تعداد "۳۳۳۰۲" کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سورۃ معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَقْسَمْتُ عَلَیْكَ یَا بَکَطِیْشِ
حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ حَاضِرٌ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ الْاَعْلٰی
بِحَقِّ کَلْبِیْعَصِّ بِحَقِّ حَمَّاسِیْنَ
بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ یَا بَدُوْحُ یَا بَدُوْحُ یَا بَدُوْحُ حَاضِرٌ شَوْ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ کے جن "لطیث" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور
 اترام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب
 تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سیرتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت
 نماز حاجت برائے "غاشیہ" کے جن "لطیث" کی نیت سے
 ادا کریں۔ اب تکمل حصار بانہ کر سورۃ حذا کو پڑھیں جب سورۃ حذا ختم ہو تو ۳ مرتبہ
 عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورۃ "الغاشیہ" کی تعداد
 ۲۴۴۹ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "لطیث" کی حاضری ہوگی جعفری
 ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سورۃ مع عمل تسخیر کو
 ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل حذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عمل تسخیر :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا لَطِیثِ
 حَافِضِ شَوْجِحِی سُوْرَةِ الْغَاشِیَةِ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ تُوْرَاتِ دَانِجِیْلِ بِحَقِّ زَبُوْرٍ
 قُرْآنِ مَجِیْدِ
 اَلْمَدَدُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ



سُورَةُ فَجْرِ کے خادِم جن "طلمطیث" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان
 سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔
 سورۃ "فجر" کے خادِم جن "طلمطیث" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی
 چلہ گاہ میں جاتے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار بانہ میں پھر سورۃ حذا کو پڑھنا شروع کریں
 جب آپ سورۃ پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن
 میں سورۃ حذا کی تعداد ۲۴۹۱ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہی حذا کی تسخیر ہوگی بعد
 چلہ سورۃ مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل حذا کی روحانیت و نورانیت
 آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت
 نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر
 دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثر آپ خود ملاحظہ
 فرمائیں گے۔

عمل تسخیر :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزْمَتِ عَلَیْکُمْ یَا لَطِیثِ اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا لَطِیثِ
 حَافِضِ شَوْجِحِی سُوْرَةِ فَجْرِ بِحَقِّ الْمُرْکُطِیْعِیْنَ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ یَا
 اَلْمَدَدُ حَافِضِ شَوْجِحِی اَلْمَدَدُ یَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة "بلد" کے خادم جن "دکھتیش" کی دعوت کا عمل

سورة "بلد" کے خادم جن "دکھتیش" کی تسخیر کے لیے الگ کمرے کا انتظام کریں جہاں شور و غل نہ ہو۔ نوچندی اتوار کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں دسوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں اگر سے میں داخل ہو کر لوہان کی خوب دھوئی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں اب آپ سورة "بلد" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة سلم ہو تو ۲ مرتبہ عمل خاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "بلد" کی تعداد ۱۰۰۰۰ کر سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ببلد شوقہ طفا لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ ملتزم کریں تو سورة مواعیل خاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل خاضری : بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دیکھتیش
 حاضر شو حاضر شو حاضر شو یا دیکھتیش
 عیسای بخن زبور داؤد و قرآن محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
 العدد الواسع جلی جلالہ بخن سلیمان بن داؤد علیہ السلام

سورة "شمس" کے جن "دیکھتیش" کی تسخیر کا عمل

پڑ سکون ماقول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ نفل کے اترا سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوہان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة "شمس" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۲ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد ۱۰۰۰۰ کر سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ببلد شوقہ طفا کریں۔ بعد پبلہ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم "اِدْرِقِي اَنْظُرِي الْيَتِي يَا دِيكْشِي
 سَمْسُ بِخَنِّي كَلْبِي عَصَ بِخَنِّي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِخَنِّي لَإِلَهِ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ أَحْضُرُوْهُ مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ أَحْضُرُوْهُ مِنْ جَانِبِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ يَا
 يَا شَمْسُ يَا شَمْسُ حَاضِرُوْهُ

سورة اللیل کے جن خادم "یطیش" کو بلانے کا عمل

سورة اللیل کے جن خادم "یطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "یطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ تکس توبہ دیکھوئی کے ساتھ سورة اللیل کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد ۳۰۰۰۰ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے عہد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اقسمت عليك يا طيش

حاضر شو حاضر شو حاضر شو بحق سورة اللیل

بحق كنه عصف بحق حمت سن

بحق سليمان بن داود عليه السلام

بحق يا بدو ۳ یا بدو ۳ یا بدو ۳ حاضر شو

عمل حاضری



سورة الضحیٰ کے جن "یطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ سات اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز چھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب تاجدار مدینہ مداحیت قلب و سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سورة الضحیٰ کے جن "یطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکمل حصار بانہ کر سورة خدا کو پڑھیں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة الضحیٰ کی تعداد ۱۳۳۶۱ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "یطیش" کی حاضری ہوگی حاضری ہونے پر جلدی پویشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی رحمانیت و قدرانیت آپ کے پاس رہے گا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

عزمت عليك يا طيش

حاضر شو بحق سورة الضحیٰ

بحق سليمان بن داود عليه السلام

بحق توران و انجیل بحق زبور

قرآن مجید

المدد يا الله يا الله يا الله

عمل تسخیر

سورة "التين" کے خادم جن "ذیطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة "النشور" کے خادم جن "ذیطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة طہ کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة طہ کی تعداد "۱۴۲۱۶" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن حذا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل حذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے لیا کریں۔ تاخیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا ذیطیش اقسمت علیکم یا ذیطیش

حاضر شریعتی سورة النشور بِحَقِّ الْمَلَائِکَةِ الْمُقَاتِلَةِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ يَاسَعِ

بِدَعْوَةِ حَاضِرِ شَرِ الْمَدِدِ يَا اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمل تسخیر:

سورة "التين" کے خادم جن "ذیطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "التين" کے خادم جن "ذیطیش" کی تسخیر کے لیے ایک کمرے کا انتظام کریں جہاں شور وغل نہ ہو۔ نوچندی تواریکی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماع سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں (سوتلی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) کمرے میں داخل ہو کر یوہان کی خوب دھوئی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ ۲-۳ مرتبہ سورة الفلاس پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حافری جن کی نیت سے لیا کریں اب آپ سورة "التين" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "التين" کی تعداد ۳۳۳۳ کر سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "التين" کے خادم جن "ذیطیش" تشریف لائیں گے جب وہ حافریوں کو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلہ ختم کریں تو سورة معہ عمل حافری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اَجِبْ يَا ذِیطِیْش

حَاضِرِ شَرِ حَاضِرِ شَرِ حَاضِرِ شَرِ بِحَقِّ سُوْرَةِ التَّیْنِ بِحَقِّ تُوْرِیْتِ مُوسٰی وَ اَنْجِیْلِ

عِیْسٰی بِحَقِّ زَبُوْرِ دَاوُدَ وَ قُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ)

الْمَدِدِ وَالْوَاسِعِ جَلَّ جَلَالُهُ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

سورة العلق کے جن ایطیش کی تسخیر کا عمل

پڑھ کر سون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور حمام سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے اترا سفید کپڑے کا پہنی لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصال توبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحة سورة اخلاص ۴۰ مرتبہ پڑھیں اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ اب آپ سورة العلق ۱۰۰ مرتبہ اور عمل تسخیر ۴۰ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة کی تعداد ۱۰۰۰۰۰ کو سات یا ایدہ دن میں پورا کریں۔ قتله اللہ تعالیٰ مدد توفیقہ خدا کے جن ایطیش کی ممانعت ہوگی۔ جب ۱۰۰۰۰۰۰۰ پورا ہو تو ہر ایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد پڑھتے وقت معہ عمل تسخیر کو ۴۰ مرتبہ عدد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیَّتِیْ اَنْظُرُ بِکَیْتَکَ یَا اَیُّطِیْشُ بِحَقِّ سُوْرَةِ
 الْعَلَقِ بِحَقِّ کَلْبِیَعِصَ بِحَقِّ سُلَیْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَیْلِ لَیْلِ لَیْلِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اَحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ یَا اَیُّطِیْشُ
 یَا اَیُّطِیْشُ یَا اَیُّطِیْشُ حَافِوْشُوْ

سورة القدر کے جن خادم ایطیش کو بلانے کا عمل

سورة القدر کے جن خادم ایطیش کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چاند گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصال توبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن ایطیش کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکمل توبہ دیکھوئی کے ساتھ سورة القدر کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھ چکیں تو ۴ مرتبہ عمل ممانعت پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد ۱۰۰۰۰۰ کو سات یا ایدہ دن میں پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہی خدا کی ممانعت ہوگی۔ جب یہ واقعہ میں توفیق سے جسے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر ممانعت عمل کرتے رہیں۔ بعد پڑھتے وقت معہ عمل ممانعت پڑھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل ممانعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا اَیُّطِیْشُ
 حَافِوْشُوْ حَافِوْشُوْ حَافِوْشُوْ حَافِوْشُوْ حَافِوْشُوْ حَافِوْشُوْ حَافِوْشُوْ حَافِوْشُوْ
 بِحَقِّ کَلْبِیَعِصَ بِحَقِّ سُلَیْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ سُلَیْمٰنَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ یَا بَدُوْ ۳ یَا بَدُوْ ۳ یَا بَدُوْ ۳ یَا بَدُوْ ۳

سورة البنية کے جن "صیطیش" کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ سات اور پاکیزہ مکہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز تو پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضریِ سورة "البنیہ" کے جن "صیطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حصار باندھ کر سورة هذا کو پڑھیں جب سورة هذا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "البنیہ" کی تعداد ۱۶۶۲ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "صیطیش" کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلے آپ سورة مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عملِ هذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا صیطیش

حافضو شو بحتی سورة البنیہ

بِحقی سلیمان بن داؤد علیہ السلام

بِحقی تورات و انجیل و بحقی زبور و

قرآن مجید

المدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ



سورة زلزال کے خادم جن "ایطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة "زلزال" کے خادم جن "ایطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی پلنگاہ میں جاتے نماز پڑھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة هذا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة هذا کی تعداد ۱۶۶۲ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن هذا کی تسخیر ہوگی بعد چلے سورة مع عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عملِ هذا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز تو پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجتِ تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا ایطیش اقسمت علیکم یا

حافظ شریعتی سورة زلزال و بحقی المرکطیعی

بِحقی سلیمان بن داؤد علیہ السلام و بحقی یا

بدو ۳ حافظ شو المدد یا اللہ الرحمن الرحیم

عملِ تسخیر:

سورة "العاویا" کے خادم جن "ایطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "العاویا" کے خادم جن "ایطیش" کی تسخیر کے لیے اللہ کرے کا انتظام کریں
 جہاں شروع عمل نہ ہو۔ نوچندی اور کی ملت یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
 آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں
 اور بھارے سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
 دعوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں مگرے میں داخل ہو کر وہ بان کی
 خوب جھونکی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ دیکھ کر پہلے دو نفل نماز توبہ اور دو نفل
 نماز برائے ایصال ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نفل رکعت میں بعد سورة
 الفاتحہ سورہ مرتبہ سورة اخلاص پڑھیں اور دو نفل نماز حاجت حائفری جن کی نیت سے
 ہو کریں اب آپ سورة "العاویا" کو پڑھا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو سورہ مرتبہ
 عمل حائفری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "العاویا" کا تعداد ۳۳۰ کو سات یا بارہ دن
 میں پورا کریں۔ اتنا اللہ تعالیٰ عظیم سورة "العاویا" کے خادم جن "ایطیش" تشریف
 لائیں گے جب وہ حائفریوں کو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلا ختم کریں تو سورة بعد عمل
 حائفری کو سورہ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حائفری: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ اَجِبْ يَا اِیْطِیْشِ
 حائفر شو حائفر شو حائفر شو بِحَقِّ سُوْرَةِ الْعَاوِیَا بِحَقِّ تُوْرِیْتِ مَوْسٰی وَ اَنْجِیْلِ
 عِیْسٰی بِحَقِّ زُبُوْرِ دَاوُدَ وَ قُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ)
 اِنْدَا الْوَاَسْطُ جَلْ جَلَالُہُ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَامُ

سورة "القارعة" کے جن "دیطیش" کی تسخیر کا عمل

پڑ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں عمل کریں عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی
 ہر چیز بند کر دیں اور بھارے سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
 کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
 روٹاں مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ دو نفل برائے
 ایصال ثواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نفل رکعت میں بعد سورة الفاتحہ سورة
 اخلاص سورہ مرتبہ پڑھیں اور دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ہو کریں۔
 اب آپ سورة "القارعة" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر سورہ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة
 کی تعداد ۱۲۰۰ کو سات یا بارہ دن میں پورا کریں۔ اتنا اللہ تعالیٰ عظیم سورة خدا
 کے جن "دیطیش" کی حائفری ہوگی۔ جب وہ حائفریوں کو عہد و پیمان کے مطابق عہد و پیمان
 کریں۔ بعد پڑ سورة بعد عمل تسخیر کو سورہ مرتبہ درد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اُرْقٰی اَنْظُرْ بَیْتًا یَا دِیْطِیْشِ بِحَقِّ سُوْرَةِ
 الْقَارِعَةِ بِحَقِّ تَلْہِیْقِصِ بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْہِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضَرُوْا مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ
 وَ الْمَغْرِبِ اُحْضَرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَ الشَّمَالِ یَا دِیْطِیْشِ
 یَا دِیْطِیْشِ یَا دِیْطِیْشِ حَافُوْشُوْا

سورة التكاثر کے جن خادم جیٹیش کو بلائے کا عمل

سورة التكاثر کے جن خادم جیٹیش کو اپنے پاس بلائے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں اوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن جیٹیش کو اپنے پاس بلائے کی نیت سے ادا کریں اب آپ مکتس توبہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ سورة التكاثر کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عمل ہاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد ۱۰۳۸۶ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم ہی خدا کی ہاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے ہمد و پیمان کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلہ آپ سورة معہ عمل ہاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل ہاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَقْسَمْتُ عَلَیْكَ يَا حِیْطِیْش
 حَاضِرُ شَوْحَانِ شَوْحَانِ حَاضِرُ شَوْحَانِ سُوْرَةِ التَّكْوِیْنِ
 بِحَقِّ كُنْیَعِصِّ بِحَقِّ حَمْعِیْنِ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ یَابِدُوْحٍ یَابِدُوْحٍ یَابِدُوْحٍ حَاضِرُ شَوْحَانِ



سورة العصر کے جن جیٹیش کی ہاضری کا عمل

رات طبعاً صاف اور پاکیزہ ہو کر صبح سے تیار کر دے طبیعت کے نازا کچھ نہیں اور اگر نام زیب تنی کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب تاجدارِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے ہاضری سورة العصر کے جن جیٹیش کی نیت سے ادا کریں۔ سب نفل حصار بانڈھ کر سورة خدا کو پڑھیں جب سورة خدا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة العصر کی تعداد ۱۰۳۸۶ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم ہی جیٹیش کی ہاضری ہوگی ہاضری ہونے پر جیٹیش کی ہاضری کے ساتھ ہمد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عمل تسخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 عَزَمْتُ عَلَیْكَ يَا حِیْطِیْش
 حَاضِرُ شَوْحَانِ سُوْرَةِ الْعَصْرِ
 بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ تُوْرَاتِ دَانِجِیْلِ بِحَقِّ زَبُوْرٍ
 قُرْآنِ مَجِیْدِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ يَا لَئِلَہٗ

سورة "الهمزة" کے خادم جن "حفظیش" کو قابو کرنے کا عمل

استقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق حصول روحانیت کے لیے بہتر ہے۔

سورة "الهمزة" کے خادم جن "حفظیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جائے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة خدا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۲ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة خدا کی تعداد "۸۳۴۱" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جس خدا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاثیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا حفظیش اقسمت علیکم یا

حافظ شریحی سورة الهمزة بحقی المرکھیعص

بحقی سلیمان بن داؤد علیہ السلام بحقی یا

بدوح حافظ شو المددیا اللہ الرحمن الرحیم

عمل تسخیر:



سورة "الفیل" کے خادم جن "امطیش" کی دعوت کا عمل

سورة "الفیل" کے خادم جن "امطیش" کی تسخیر کے لیے اللہ کے انتظام کریں جہاں شروع نہ ہو۔ نوپندی اولاد کی رات یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے جانور کی تمام چیزیں بند کریں اور جماعت سے مکمل پرہیز کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں (سوتی سفید یا آسمانی شلوار قمیض بھی زیب تن کر سکتے ہیں) کمرے میں داخل ہو کر لوہان کی طوب دھولی لگائیں پھر حصار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ اور نفل نماز برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ ۲-۲ مرتبہ سورة غافر پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حاضری جن کی نیت سے ادا کریں اب آپ سورة "الفیل" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۲ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة "الفیل" کی تعداد ۸۸۵۸ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة "الفیل" کے خادم جن "امطیش" تشریف لائیں گے جب وہ حاضر ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلہ ختم کریں تو سورة معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَجِبْ یَا امطیش

حافظ شو حافظ شو حافظ شو بحقی سورة الفیل بحقی توریت موسیٰ و انجیل

عیسیٰ بحقی زبور داؤد و قرآن محمد الرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

المدد الواسع جل جلالہ بحقی سلیمان بن داؤد علیہ السلام

سُورَةُ "قُرَيْشٍ" کے جن "حسٹیش" کی تسخیر کا عمل

پڑھ سکون ماحول اور الگ کمرہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے جانور کی ہر چیز بند کر دیں اور جماع سے مکمل پرہیز کریں۔ یہ عمل آپ نوچندی جمعرات یا جمعہ سے شروع کریں گے۔ غسل کر کے احرام سفید پڑھے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے لوبان مہکائیں پھر حصار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے ایصالِ ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورۃ الفاتحہ سورۃ اخلاص ۳-۳ مرتبہ پڑھیں) اور پھر دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے یاد کریں۔ اب آپ سورۃ "قُرَيْشٍ" ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۴ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورۃ کی تعداد ۶۰۶۲ کوسات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بملک سورۃ خدا کے جن "حسٹیش" کی حاضری ہوگی۔ جب وہ حاضر ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمانہ کریں۔ بعد چلے سورۃ معہ عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَرِنِیْ اَنْظُرِ الْاَبْیْثَ یَا حَسْبِیْشَ بِحَقِّ سُوْرَةِ
قُرَیْشٍ بِحَقِّ کَلْبِیْعَقْصَ بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ لَآلِہِ الْاَلَّاہِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
وَالْمَغَارِبِ اُحْضِرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشِّمَالِ یَا حَسْبِیْشَ
یَا حَسْبِیْشَ یَا حَسْبِیْشَ حَاضِرُ شَوْ

سُورَةُ "المَاعُونِ" کے جن خادم "اصطیش" کو بلانے کا عمل

سُورَةُ "المَاعُونِ" کے جن خادم "اصطیش" کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چلہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دو نفل نماز حاجت جن "اصطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے یاد کریں اب آپ مکس توبہ دیکھوئی کے ساتھ سورۃ "المَاعُونِ" کو پڑھنا شروع کریں جب سورۃ پڑھ لیں تو ۳ مرتبہ عمل حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورۃ خدا کی تعداد ۸۰۸-۹۲ کوسات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم تر خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہو جائیں تو ان سے بڑے احب و احترام سے عہد و پیمانہ کریں پھر اس پر تاحیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چلے آپ سورۃ معہ عمل حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا اصْطِیْشَ
حَاضِرُ شَوْ حَاضِرُ شَوْ حَاضِرُ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ الْمَاعُوْنِ
بِحَقِّ کَلْبِیْعَقْصَ بِحَقِّ حَمْعَقْصَ
بِحَقِّ سُلَیْمٰنِ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ
بِحَقِّ یَا بَدُوْۃ یَا بَدُوْۃ یَا بَدُوْۃ حَاضِرُ شَوْ

سورة الكوثر کے جن زکطیش کی حاضری کا عمل

رات علیحدہ صاف اور پاکیزہ کمرہ میں پہلے سے تیار کردہ سفید جائے نماز بچھائیں اور احرام زیب تن کر کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب تاجدارِ مدینہ، راحتِ قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سورة "الکوثر" کے جن "زکطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب مکمل حصار باندھ کر سورة خدا کو پڑھیں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "الکوثر" کی تعداد ۲۷۶۳ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "زکطیش" کی حاضری ہوگی جلدی ہونے پر جری ہو شیلری کے ساتھ عہد و پیمان کریں۔ بعد چلہ آپ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا زکطیش

حافضو شریحتی سورة الكوثر

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تَوْرٰتِ دَاوُدَ وَ انجیلِ بِحَقِّ زَبُورِ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

المدد یا اللہ یا اللہ یا اللہ

عمل تسخیر :-



سورة الكافرون کے خادم جن و لطیش کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات اکینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة "الکافرون" کے خادم جن و لطیش کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی چلہ گاہ میں جاتے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة خدا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة خدا کی تعداد ۲۷۶۳ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہی خدا کی تسخیر ہوگی بعد چلہ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جلد گہریابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصال ثواب حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔ تاخیر آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عزمت علیکم یا ولطیش اقسمت علیکم یا ولطیش

حافظ شریحتی سورة الكافرون بِحَقِّ العرکھلیعص

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ یَا

بِدَدِ حَافِظِ شُرُوعِ المدد یا اللہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عمل تسخیر :-

سورة النصر کے غلام جن بسطیش کی دعوت کا مکمل

سورة النصر کے غلام جن بسطیش کی دعوت کے لیے لگ کرے کا نظام کریں
 یہاں شروع میں نہ ہو۔ چونکہ ان کی حالت یا جمعرات یا جمعہ سے عمل شروع کریں عمل جب
 آپ شروع کرنے کا ارادہ کریں تو اس دن سے ایک ہفتہ پہلے ہفتہ کی تمام چیزیں بند کریں
 اور جمعہ سے مکمل پر مہر کیجئے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں اور احرام باندھ لیں
 دسویں سفید یا آسمانی شلوار تیسری گاڑی تکی کر سکتے ہیں مگرے میں داخل ہو کر لوہان کی
 خوب دھونی لگائیں پھر صبار باندھ لیں اب قبلہ رو ہو کر پہلے دو نفل نماز توبہ، دو نفل
 نماز برائے ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ
 الفاتحہ ۳-۴ مرتبہ سورة اخلاص پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت حافری جن کی نیت سے
 ادا کریں اب آپ سورة النصر کو پڑھنا شروع کریں جب سورة ختم ہو تو ۳ مرتبہ
 عمل حافری پڑھیں۔ اسی ترکیب کے ساتھ سورة النصر کی تعداد ۱۱۳ کو سات یا گیارہوں
 میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم سورة النصر کے غلام جن بسطیش تشریف
 لائیں گے جب وہ حافری ہوں تو عہد و پیمان کریں۔ جب آپ چلے ختم کریں تو سورة معہ عمل
 حافری کو امر تبرا اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عمل حافری : بسم الله الرحمن الرحيم اَجِبْ يَا بسطيش
 حافر شو حافر شو حافر شو بِحَقِّ سُورَةِ النَّصْرِ بِحَقِّ تَوْرِيْتِ مُوسَىٰ وَانجِيلِ
 عِيسَىٰ بِحَقِّ زُبُورِ دَاوُدَ وَقُرْآنِ مُحَمَّدِ الرَّسُولِ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 الْمَدَدُ الْوَالِاسَةُ جَلْ جَلَالَهُ بِحَقِّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

سورة اللهب کے جن دنطیش کی تسخیر کا عمل

پڑھوں کا عمل اور لگ کر وہ میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے ایک ہفتہ پہلے ہفتہ کی
 ہر چیز بند کر دیں اور جمعہ سے مکمل پر مہر کریں۔ یہ عمل آپ فوجندی جمعرات یا جمعہ سے شروع
 کریں گے۔ غسل کر کے اور سفید کپڑے کا پہن لیں پھر کمرہ میں داخل ہو جائیں۔ پہلے
 لوہان مہکائیں پھر صبار باندھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دو نفل نماز توبہ، دو نفل برائے
 ایصال ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (دونوں رکعت میں بعد سورة الفاتحہ سورة
 اخلاص ۳-۴ مرتبہ پڑھیں) اور دو نفل نماز حاجت تسخیر جن کی نیت سے ادا کریں۔
 اب آپ سورة اللهب ایک مرتبہ اور عمل تسخیر ۴ مرتبہ پڑھیں۔ اسی ترکیب سے سورة
 کی تعداد ۵۰۴ کو سات یا آٹھ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جلد سورة لفظا
 کے جن دنطیش کی حافری ہوگی۔ جب وہ حافری ہو تو ہدایات کے مطابق عہد و پیمان
 کریں۔ بعد چلے سورة معہ عمل تسخیر کو ۱۱۳ مرتبہ ورد میں رکھیں۔

عمل تسخیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اِدْرِیْ اَنْظُرْ اِلَیْكَ يَا دَنْطِیْشِ بِحَقِّ سُورَةِ
 اللّٰهَبِ بِحَقِّ کَلِمَاتِ عَصْرِ بِحَقِّ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اُحْضَرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ
 وَالْمَغَارِبِ اُحْضَرُوْا مِنْ جَانِبِ الْجَنُوْبِ وَالشَّمَالِ يَا دَنْطِیْشِ
 يَا دَنْطِیْشِ يَا دَنْطِیْشِ حَافِرُ شُو

سورة "اخلاص" کے جن خادم بیطیش کو بلانے کا عمل

سورة "اخلاص" کے جن خادم بیطیش کو اپنے پاس بلانے کے لیے سب سے پہلے اپنی چٹہ گاہ میں لوبان کی دھونی دیں پھر تمام گناہوں سے توبہ کی نیت کرتے ہوئے دو نفل نماز توبہ، پھر دو نفل نماز برائے ایصالِ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو نفل نماز حاجت جن "بیطیش" کو اپنے پاس بلانے کی نیت سے ادا کریں اب آپ تکس توجہ دیکھو کی کے ساتھ سورة "اخلاص" کو پڑھنا شروع کریں جب سورة پڑھیں تو ۳ مرتبہ عملِ حاضری پڑھیں اسی ترکیب کے ساتھ سورة خدا کی تعداد ۱۰۰۲ کو سات یا گیارہ دن میں پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن خدا کی حاضری ہوگی۔ جب یہ حاضر ہوں تو ان سے بڑے ادب و احترام سے ہمد و پیمان کریں پھر اس پر تاجیات عمل کرتے رہیں۔ بعد چٹہ آپ سورة معہ عملِ حاضری کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل قابو میں رہے۔

عملِ حاضری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْسَمْتُ عَلَیْكَ يَا بَیْطِیْشَیْ

حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ حَاضِرْ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ

بِحَقِّ كَلْبِیْضَیْ بِحَقِّ خَمْعِیْ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ یَا بَدُو ۳ یَا بَدُو ۳ یَا بَدُو ۳ حَاضِرْ شَوْ



سورة "الفلق" کے جن بیطیش کی حاضری کا عمل

رات طبعاً دساون اور پندرہ گروہ میں بیٹے سے تیار کر کے فریجائے نماز پچھلی اور الام زبیب تک کے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب تاجدارِ مدینہ مدامت قلب و سیرت بحوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز حاجت برائے حاضری سورة "الفلق" کے جن "بیطیش" کی نیت سے ادا کریں۔ اب تکل حصار بانہ عکس سورة خدا کو پڑھیں جب سورة خدا ختم ہو تو ۳ مرتبہ عملِ تسخیر پڑھیں اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة "الفلق" کی تعداد ۸۶۷۵ کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عظیم جن "بیطیش" کی حاضری ہوگی جعفری ہونے پر بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمد و پیمان کریں۔ بعد چٹہ آپ سورة معہ عملِ تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے درد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے گا۔

عملِ تسخیر :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَزَمْتُ عَلَیْكَ يَا بَیْطِیْشَیْ

حَاضِرْ شَوْ بِحَقِّ سُوْرَةِ الْفَلَقِ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ

بِحَقِّ تُوْرَاتِ وَاَنْجِیْلِ بِحَقِّ زَبُوْرَةِ

قُرْآنِ مَجِیْدِ

اَلْمَدَدُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ يَا اللّٰهُ

سورة "الناس" کے خادم جن "حنطیش" کو قابو کرنے کا عمل

انتقامی جذبات، کینہ پروری اور بغض و حسد سے اپنے قلب و ذہن کو پاک کریں۔ ان سے اپنا دامن ہمیشہ بچائیں کہ یہی آپ کے حق و حصولِ روحانیت کے لیے بہتر ہے۔ سورة "الناس" کے خادم جن "حنطیش" کو تسخیر یعنی قابو کرنے کے لیے اپنی جگہ گاہ میں جاتے نماز پر بیٹھ کر پہلے حصار باندھیں پھر سورة طحا کو پڑھنا شروع کریں جب آپ سورة پڑھ چکیں تو ۳ مرتبہ عمل تسخیر پڑھیں۔ اسی طرح آپ سات یا گیارہ دن میں سورة طحا کی تعداد "۵۲۹۶" کو پورا کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جن خدا کی تسخیر ہوگی بعد جگہ سورة مع عمل تسخیر کو ۱۱ مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ عمل خدا کی روحانیت و نورانیت آپ کے پاس رہے۔ عمل میں جگہ کامیابی کے لیے عمل شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز توبہ پھر دو رکعت نماز برائے ایصالِ ثواب حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دو رکعت نماز برائے حاجت تسخیر جن کی نیت سے لڑا کریں۔ بہتر آپ خود دعا حفظ فرمائیں گے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عِزَّتِ عَلَیْکُمْ یَا حَنْطِیْشِ اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ یَا حَنْطِیْشِ

حَافِظِ شَرِّکِنِّ سُوْرَةِ النَّاسِ بِحَقِّ الْمَرْکُفِیْعِیْنَ

بِحَقِّ سَلِیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلَامُ بِحَقِّ یَا

بِدُوۡۃِ حَافِظِ شَرِّ الْمَدِیْنِیِّ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عملِ تسخیر:



حاضراتِ ارواح پر ایک شاہکار تحقیق آپ کے لئے

مخفی حاضرات

۷۸۶

۱۵	۶	۱	۸	۱۵
۲	۷		۳	۲
۱۵	۳	۹	۴	۱۵

تحقیق و تالیف

صوفی محمد ندیم محمدی



اہتمام: مکتبہ روضہ حانیات فیڈرل کپٹل ایریا کراچی پاکستان

وَعَانِي طَاقَتِ مَوَاطِنَاتِ كِي تَسْفِيحِ پَر اِيك بے بِشَالِ تَحْقِيقِ اَپكے لِنے

مَوَاطِنَاتِ كِي دُنْيَا

۲۰	عزرائیل	۹۲	۶۶	جبرائیل	۲۰
۲۰	۶۶	۵	۷	۶۶	۲۰
۲۰	۹۲	ح	و	۹۲	۲۰
۲۰	میکائیل	۹۲	۶۶	اسرائیل	۲۰

تَحْقِيقُ وَ تَالِيفُ

صُوفِي مُحَمَّدٌ نَدِيمٌ مُحَمَّدِي



۴ : مکتبہ رُوحانیات فیڈرل کپٹل ایریا کراچی ۱۹ پاکستان

گھڑ بیٹھے ہندو لعیکہ حافرات ہر سوال کا جواب حاصل کریں

آسکان و محسب حافرات

۱۰	۲	۸
۴	۵	۹
۶	۱۱	۳

تَحْقِيقُ وَ تَالِيفُ

صُوفِي مُحَمَّدٌ نَدِيمٌ مُحَمَّدِي

۱ : مکتبہ رُوحانیات فیڈرل کپٹل ایریا کراچی پاکستان

تسخیر روح پر ایک تحقیقی و روحانی دستاویز، آپ کے لیے

تسخیرات ارواح

	۶۶	۹۲	۶۶	
۶۶	اللہ	روح	اللہ	۶۶
۹۲	روح	المعنی	روح	۹۲
۶۶	اللہ	روح	اللہ	۶۶
	۶۶	۹۲	۶۶	

تحقیق و تالیف

صوفی محمد ندیم محمدی

اہتمام : مکتبہ روحانیات فیڈل کیپٹل ایریا کراچی ۱۹ پاکستان

دعا استخارہ

استخارہ کے لیے دو رکعت نفل نماز پڑھے پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد درج ذیل دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحیم و رحیم ہے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَعِیْنُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ

اللہ سے تم سے دعا ہے کہ تم سے علم حاصل کروں اور تم سے قوت حاصل کروں

بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ

تم سے قوت حاصل کروں اور تم سے تم سے بڑے فضل سے دعا کروں

فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وِلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وِلَا اَعْلَمُ وَ

تو تو قوت دے گا اور میں نہیں کرتا اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور

اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ۝ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَا

تو جانتا ہے وہ پوشیدہ باتوں کا ہے اور میں نہیں جانتا اور

اَمْلِكُ لِنَفْسِیْ ضَرًا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا مَوْتًا

میں اپنے نفس کو ہلاکت سے نہ نفع دے سکتا اور نہ موت دے سکتا اور

وَّلَا حَیوَةً وَّلَا نَسُوْرًا ۝ اللّٰهُمَّ اِن كُنْتَ

اور نہ زندگی دے سکتا اور نہ پھر اٹھانے کی ہے اور تو جانتا ہے کہ

تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا اَمْرٌ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ

تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین میں اور میری

مَعَايِشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي

زندگی میں اور میرے انجام کار میں پس مقدر کر لو تو اس کو

وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتُ

اور میرے لئے اور آسان کر اور اسکو میرے لئے بہتر بنا دے اور اس میں سے لے اور اگر

تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ

تو جانتا ہے کہ یہ کام برا ہے میرے دین میں اور

مَعَايِشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ

میری زندگی میں اور میرے انجام کار میں پس پھیر دے تو اس کو

عَنِّي وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْهُ لِي

مجھ سے اور پھیر دے مجھ کو اس سے اور مقدر کر دے میرے لئے

الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ

جہاں بھی وہ ہے اور میری مرضی کر دے مجھ کو اس کے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اپنی رحمت سے تُوں سب سے مہربان ترین ہے اور وہ رحمت کرنے والا ہے

نوٹ:- عمل شروع کرنے سے پہلے استخارہ کریں جو عمل آپ کرنے لگے ہیں آپ کے لئے بہتر ہے کہ نہیں۔



آيَةُ الْكُرْسِيِّ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ

استادہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے اور غافل نہیں اس کا نام رکھنے والا ہے نہ اس کو

سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

اُدگم آتی ہے نہ نیند اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

زمین میں ہے کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں

إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا

کسی کی ہفاڑش کرے جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے

خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

پہلے ہے اور لوگ اس کی مخلوقات میں سے کسی چیز پر اعاطہ نہیں کر سکتے مگر جسے

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ

وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر عادی ہے اور

لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں اور وہ عالی شان عظمت والا ہے

نوٹ:- عمل سے پہلے آیت الکرسی اور تہ پڑھ کر اپنا بدنی حصار کریں رجعت سے محفوظ رہیں گے۔